

**AYATAYAT NA TARPILLIT
SIAN AL QURAN
TU HATA BATAK**

**PUBLISHED BY
ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS
LIMITED**

© Islam International Publications Ltd.

1988

ISBN 1 85372 089 5

PRINTED BY
GUNABAKTI GRAFIKA
Jakarta, Indonesia

ATURANNA

No.	alamann
1. DEBATA – ALLAH	1
2. Surusuruan	6
3. Al Quran – Al Kitab	8
4. Panurirangpanurirang	12
5. Panurirang na badia ni Islam i	18
6. Martamiang – Sembahyang	22
7. Marpuaso	24
8. Mangalehon arta tu dalan ni Debata (Allah)	25
9. Naik Haji (Marhutasada tu Bagas ni Debata – Allah)	29
10. Pasahathon Barita na uli i tu saluhut manisia	32
11. Adatadat (itiket)	34
12. Prinsip pokok dibagasan sistem perekonomian	39
13. Jihad – Usaha/Parniulaon na timbo didalan ni Debata (Allah)	41
14. Hadengganon dohot tandatanda ni halak muslim	44
15. Dos do hak ni baoa dohot boruboru	47
16. Diorai mambungahon hepeng	50
17. Khabar ghaib/prophecies/wahyu	52
18. Na marhubungan dohot alam	55
19. Parsiajaran dibagasan Al Quran laho mangido/martamiang	58
20. Ayatayat na jempek sian Al Quran na momo ingoton	61



HATTA PRAJOLO

1. Ganup ayat Al Quran i marisihon lapatan na momo huhut torang ala ni i angka jolma na apala ipe mulai manjaha terjemahan ni Al Quran pe dapot mangantusi saotik haluhuron ni isi ni ayatayat i.

Mardomu tu si ganupganup ayat adong do hubunganna na sada dohot na debanari, ganupganup ayat marisihon pangantusan na mansai bidang alai marlapatan na buni.

Marhitehitehon dalandalan i pangkal ni masalah ni angka ayatayat i gabe sada rante pardomuan dohot ayat dohot surah naparjolo dohot na parpudi i, sarupa tu sada sistem komunikasi na adong jaringan saluransaluran .

Dohot alasanalasan natarsurat na diginjang i gabe ro dua hal na paltak.

- II. a. Tung mansai beha pe hadengganon ni terjemahan, holan saotik do boi patoranghon lapatan dohot pangantusan isi ni Kitab na mansai bidang pangartianna dohot lapatanna si songon Al Quran on. Jadi ndang mungkin laho pabotohon sada terjemahan Al Quran na tertentu dapot mamboan panjaha tu saluhut amanat dohot ajaran songon aslina.

b. Madasarhon kupasan na tarsurat na diginjang i tung mansai maol do laho mamillit manang piga ayat Al Quran i mangonai tu sada pokok parsoalan manang pembahasan mangarophon ia ayatayat na tarpillit i dapot patoranghon saluhut pangartianna secara tuntas.

Sada contoh molo astuanna angka ayat na tarpilit sian Al Quran i laho patoranghon sistem ekonomi Islam songon natarsurat asli di Al Quran, tujuan i ndang boi sahat mardasarhon alasanalasan na tarsurat na diginjang i. Adong muse do alasan na deba nari, ima ia filsafat sistem ekonomi Islam i nunga dipasar disaluhut di Al Quran i diayatayat na sipata ndang adong sangkutanna secara langsung tu sistem ekonomi Islam.

Alai molo hita mamereng tu pangisi ni tano on marhata dohot hata na marasingasing tarbagi muse ragamragam ni kelompokkelompok kebudayaan dohot bangso na marasingasing, nasida i sahat tu sadarion ndang hea dope sanga tingkina laho mamparsiajari Kitab na

gok halongangan on, jadi keadaan na meresahon on ma na manjou hita laho hatop manontuhon sada sikap na tegas.

Sasintongna, tung mansai dokdok do roha mandok dibagasan sampulu opat abad on Al Quran diterjemahon holan 65 bahasa do. Hape Bibel nunga diterjemahon tu 1808 bahasa dunia.

Marpartimbanghon na songon i ma Jemaat Ahmadiyah naung sar tu saluhut bangso nunga melaksanahon rancangan na balga huhut mulia ima manterjemahon saluhut isi ni Al Quran tu lima pulu bahasa na dipargunahon songon hata na luas di portibi on sahat tu taon 1989 ima taon na salpu 100 taon Jemaat Ahmadiyah dung dipajongjong.

Angkup ni i muse marsangkap do laho pasahathon isi ni Al Quran sa-saotikna deba sian isi na i tu angka jolma na manggunahon hata na asing sian bahasa na 50 i. Alai terjemahon na lengkap ingkon bahanon do i dipudina.

Laho manggoki sitasita on nunga dipillit manang piga ayatayat Al Quran na adong sangkutanna tu angka masalah dohot maksud laho patandahon deba sian ajaran ni Islam na marsifat pokok dasar tu angka panjaha na so hea manang ndang mananda dope ajaran ni Islam manang parbinotoan nasida tu si holan saotik.

Arop do rohanami huhut martamiang marhasil ma nian ulaon on laho pasombuhon uas nasida tu parbinotoan Ajaran ni Islam. Dung i gabe ro ma hasiholon na imbaru dibagasan roha ni panjaha laho mamparsiaajari lobi ringgas Sipatudu na Gok isi ni Al Quran na Badia ala Hatahata ni Debata (Allah) do i.

Ayat Al Quran naung dipillit laho diterjemahon nunga disesuaihon dohot juduljudul na penting songon na tarsurat ditoruon :

1. Debata — Allah
2. Surusuruan
3. Al Quran — Al Kitab
4. Panurirangpanurirang
5. Panurirang na Badia ni Islam
6. Martamiang — sembahyang
7. Marpuaso
8. Mangalehon arta tu dalan ni Debata (Allah)
9. Naik Haji (Marhutasada tu Bagas ni Debata (Allah))
10. Pasahathon Barita na Uli tu saluhut manisia
11. Adatadat (itiket)
12. Prinsip pokok dibagasan sitem perekonomian
13. Jihad — Usaha/Parniulaon na timbo didalan ni Debata
14. Hadengganon dohot tandatanda ni halak Muslim

15. Dos hak ni baoa dohot boruboru
16. Diorai mambungahon hepeng
17. Khabar ghaib/prophecies/wahyu
18. Na marhubungan dohot Alam
19. Parsiajaran dibagasan Al Quran laho mangido/martamiang
20. Ayatayat na jempek sian Al Quran na momo ingoton

Dohot pangurupion ni Debata (Allah) Jemaat Muslim Ahmadiyah nunga mangarokkom terjemahan Al Quran saluhut isi ni Al Quran i tu hata songon na tarsurat ditoru on :

- Hata Bengali
- " Denmark
- " Belanda
- " Inggris
- " Fanti
- " Fiji
- " Perancis
- " Hausa
- " Hindi
- " Indonesia
- " Italia
- " Kikuyu
- " Luganda
- " Portugal
- " Sawahili
- " Sweden
- " Rusia
- " Spranto
- " Urdu
- " Yuroba

Las dibagasan roha pabotohon ia terjemahan tu dua pulu hata nai nunga sidung dicetak.

Dohot pangurupion ni na Marhuaso i ndang sadia leleng nai be cetakon do muse terjemahan tu hata songon na tarsurat ditoruon :

- Hata Albania
- " Asami
- " Aria
- " Cina
- " Gujarati
- " Jepang
- " Korea

- " Malyalam
- " Mandly
- " Marathi
- " Norwegia
- " Pasytu
- " Spaniol
- " Sweden
- " Tamil
- " Telugu
- " Turki
- " Vietnam
- " Kanri

Molo adong angka sungkunsungkun taringot tu na mambahen Al Quran on tu angka hatahata ni bangso bahan ma tu penerbit manang tu Missi Muslim Ahmadiyah disaluhut inganan na adong diportibi on.

Tung mansai ringkot situtu do pabotohon ia juduljudul na adong dibuku on ndang bagian ni Al Quran i, ala ni i do juduljudul i dipapulik inganan-na.

Angka ayat ni Al Quran na dibahen dibuku on ima na panillit ni Hazrat Mirza Tahir Ahmad Pemimpin Tertinggi Jemaat Islam Ahmadiyah na na tarsar disaluhut bangso di portibi on.

M.A. Saqi
Additional Vakil-ut-Tasnif
dan Nazir Penyiram
London.

(1) DEBATA — ALLAH

Allah (Debata) ima sada goar wujud ni Sigomgom Saluhut. Dihata Arab ndang hea dibahen manggoari sada barang pe. Goar goar ni Tuhan dihatahata na asing dibahen hata jamak, alai tu hata "Allah" ndang hea manang sadihari pe dibahen jamakna. Ala na so adong hata na sajajar dihata Inggris ala ni i do hata Allah i totop dipake diterjemahan i.

Dohot Goar ni Debata, Parasiroha, Naulibasa. Saluhutna pujipujian holan tu Debata (Allah) do, ima Tuhan Sigomgom Saluhut, Parasiroha, Naulibasa, Namaruwaso di ari nanaeng ro i. Holan tu Ho do hami manomba jala holan tu Ho do hami mangido pangrupion. Boan ma hami tu dalan na tigor i — Ima dalam na tigor songon naung ni lehonMu Panondang tu nasida, alai ndang dalan naung tinaon ni angka na nimurukanMu dungi ndang dalan ni jolma angka na liliu i. (1:1—7)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
مَلِكُ الْوَزْرَاءِ
إِيَّاكَ نَصْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
إِنَّا نَصْرَاطَ الْمُشْرِقَيْنَ
صَرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ
الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
الْفَاتِحة : ٧ - ١

Angka na adong di banua ginjang dohot na adong di banua toru pasangaphon Debata (Allah), Ibana do Pargogo Parlangitan, Na Sintong jala Na Tigor. Debata (Allah) do nampuna harajaon di banua ginjang dohot di banua toru; Ibana do pangoluhon jala Ibana do pamatehon, Ibana marhuaso tu saluhut na manggulmit. Ibana do Bona dohot

سَبَّهَ بِلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْغَنِيُّ
عَنِ الْعَكِينِ
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «مَنْ يُنْهَى وَمَنْ يُهْبَطُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيرٌ
هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ الْقَاهِرُ وَالْبَاسِطُ وَهُوَ

Ibana do Ujungna Na Patar Na Buni, Ibana do Siboto Saluhut tu na manggulmit. Ibana do manompa saluhut langit dohot tano dibagasan onom sundut, dung i maradian ma di ginjang di 'arasy (habangsa). Diboto Ibana do angka na masuk tu bagasan tano i dohot na haruar sian i, angka na madabu sian langit dohot na manaek tu si. Sai di dongani Debata (Allah) do hamu di dia pe hamu adong. Manaili do Debata (Allah) tu angka na ni ulahonmuna i. Ibana do nampuna Harajaon banua ginjang dohot banua toru; dung i mulak tu Debata (Allah) do saluhut na masa i. Ibana do pabongothon borngin tu arian jala pabongothon arian tu borngin; dung i Ibana mansai boto do na adong di roha. Porsea ma hamu tu Debata (Allah) dohot tu PanurirangpanurirangNa, dung i lehon ma deba sian naung dibahen Ibana hamu panean disi. Angka jolma na porsea sian tongatongamuna na mangalehon artana i taruli parjambaran na balga do nasida.

(57:2–8)

Angka aha pe na adong di banua ginjang nang aha pe na adong di banua toru pasangaphon Debata (Allah); Ibana do nampuna Harajaon dohot sasude puji-pujian, dung i Ibana do marhuaso tu saluhut na manggulmit. Ibana do na manompa hamu, di tongatongamu deba adong do naso porsea dung i deba na porsea, Debata (Allah) Siboto Saluhut parparangeonmu. Ibana do na manompa langit dohot tano dohot habonaron,

يَحْكُلُ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ^۰
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَبَعَةِ
 أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا بِهِمْ فِي
 الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ مَعْلُومٌ بِهِمْ^۰
 السَّمَاءُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ مَعْلُومٌ بِهِمْ^۰
 كُلُّ شَيْءٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ بِصَيْرَهُ^۰
 لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ اللَّهُ
 تَزْجَعُ الْأُمُورُ^۰
 يُؤْلِيمُ الظَّالِمَيْنِ فِي النَّهَارِ وَيُؤْلِيمُ النَّهَارِ فِي
 الظَّالِمِ وَهُوَ عَلَيْهِمْ بِإِذْنِ اللَّهِ^۰
 أَمْنُوا بِاِلْهُوَ رَسُولِهِ وَآتُوهُمْ مَا جَعَلَنَّكُمْ
 مُشْتَحِلَّيْنَ فِيهِ فَالَّذِينَ آتَنُوكُمْ
 أَنْقَطُوا لَهُمْ أَجْرًا كَيْدِهِ^۰

الحادي : ۸-۲

يُسْتَهِمُ بِلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ
 الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^۰
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ خَلْقٍ فَمِنْهُمْ كَافِرٌ وَمِنْهُمْ مُّؤْمِنٌ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بِصَيْرَهُ^۰

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ يَانِعَقٍ وَصَوَرَ كُلَّ
 فَآخْسَنَ صُورَ كُلَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْعِيْرِ^۰

di bahan do tompamu dohot tompa na lehet, tu Ibana do haporusan. Ibana do na mamboto aha pe na adong di saluhut banua ginjang dohot di banua toru, di boto Ibana do na di tabunihonmuna dohot na pinatudummuna; Debata (Allah) Siboto Saluhut di bagasan roha ni jolma.

(64:2–5)

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسَرِّعُ
وَمَا تُؤْخِلُنَّكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْحُدُودُ
التغابن : ٥-٢

Sasintongna Debata (Allah) do na mambola angka boni dohot bijibiji. Ibana do paruarhon na mangolu sian na mate, paruarhon na mate sian na mangolu. Ima Debata (Allah); jadi tu dia ma hamu laho? Ibana do mambahen si sogot Ibana nunga pajadihon borngin i paradianan, mata ni ari dohot bulan mangetong tingki i. On ma hatontuon sian Nampuna Hagogoon, Siboto Saluhut. Ibana do na manjadihon di hamu bintang-bintang, asa boi pataridahon tu hamu di haholomon i daratan dohot laut. Sasintongna nunga tangkas Tanda-tanda tu jolma na pistar i. Dung i Ibana do na pajadihon hamu sian tondi na sada, adong do inganan parsantongkinan di hamu dohot inganan na totop. Sasintongna nunga hubahen Hami Tandatanda na tangkas tu jolma na mangantusi. Ibana do na patuathon aek sian ombun; dung i pingkiri ma songondia do Hami marhitehite sian aek i gabe tubu ma suansuanan i; huharuarhon Hami ma muse sian i putikputik na ratarata na sian i huparuar Hami parbue na marbarisbaris. Sian bona ni korma i, sian pussuna haruar tandantandan na marbiur. Dung i Hubahen Hami do

رَأَى اللَّهُ فِلْقُ الْجَنَاحِيَّةِ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُنْهَى
فَأَنَّى تُؤْكِلُونَ ○ قَارُبُ الْأَصْبَارِ وَجَعَلَ الْيَلَى سَكَنًا لِلشَّمْسِ
وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيِّينِ ○ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَهُمُ الْجُوْمَ لِتَمْتَدُوا
بِهَا فِي ظُلْمِتِ الْبَرَّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلَنَا
الْأَيْتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○ هُوَ الَّذِي أَشَاكَمْ مِنْ نَفِيسٍ وَاحِدَةً
فَمُسْتَقْرَأَ مُسْتَوَدَعًّا قَدْ فَصَلَنَا الْأَيْتَ
لِقَوْمٍ يَقْمِمُونَ ○ هُوَ الَّذِي آتَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَنَا
بِهِ نَهَائَاتِ مُكْلَى شَنِي وَفَأَخْرَجَنَا مِنْهُ خَضْرًا
ثُغُورًا مِنْهُ حَبَّاجَاتَ رَكْبَابًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ
طَلْعَمَا قَنْوَانَ دَانِيَةً وَجَثَتَتْ مِنْ آنَتَابَ
وَالْأَيْتَنَوَنَ وَالرِّئَمَانَ مُشَتَّمَاهَا غَيْرَ مُتَشَابِهِ

Porlak anggur dohot zaitun dohot de-lima na sa ragam dohot na so saragam. Taili ma tu parbuena i molo i tingki marparbue, beha parlamunna. Sasin-tongna hombar tu si tarida do tanda-tanda tu houm na porsea. Dibahen nasi-da do begubegu marangkup Debata (Allah), hape Ibana do na manompa nasida; dung i nasida nunga mamba-hendahen Tuhan i marijanakhon baoa dohot boru, sian na so adong parbin-toan nasida. Nabadia Debata (Allah) dohot Mauliutus sian pandohan nasida i tu Ibana.

(6:96–101)

Debata (Allah), ndang adong na tau si sombaon holan Ibana do, Debata Si-parngolu, Debata (Allah) na Manontong dohot na Mangaradoti Saluhut. Ndang boi gomgomon ni ondokondok jala ndang mamorluhon modom. Ibana do na manggomgomi banua ginjang dohot banua toru. Ise do na dapot mangale-hon Syafa'at di Habangsana i, holan dohot lomoNa? Diboto Ibana saluhut-na adong diadopan nasida dohot di pudinasida ndang dapot nasida manang-kup saotik pe sian ilmuNa i molo so di-halomon Ibana. HabangsaNa mangalap-lap tu saluhut banua ginjang dohot banua tour; jala Ibana ndang borat mangaraduti duansa; Ibana Raja na Diginjang, Raja Na Bolon.

(2:256)

أَنْظُرْنَا إِلَيْكُمْ رَبَّاً أَثْمَرَ وَيَنْهِيْهِ مَارَقَ
فِي ذَلِكُمْ لَا يَبْتَلُونَ مِنْ نُوْنَ^٥
وَجَعَلُوا يَتُوْ شَرْحَاءِ الْجِنَّ وَخَلَقَهُ
خَرَقُوا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَنَيْهِ يَغْيِرُ عَلَيْهِ
سَبِّحَنَهُ وَتَعَلَّعَ عَلَيْهِ صِفَوْنَ^٦
الأنعام: ٩٦-٩٧

أَنَّهُ لَهُ لَرْلَهُ لَهُ هُوَ، أَلْحَيِ الْقَيْوَمُهُ
تَأْخُذُهُ سَيْئَهُ وَلَا تَؤْكِدُهُ مَافِ السَّمْوَتِ
وَمَافِ الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُ
إِلَّا بِرَبِّهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ وَمِنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَيَسِعُ كُرْسِيُهُ السَّمْوَتِ
وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئْتُهُ مَا حِفْظُهُمْ، وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْكَظِيمُ^٧

البقرة: ٢٥٦

حَوَّا لَهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ هُوَ، عِلْمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ، هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ^٨

Ibana do Debata (Allah), ndang adong tuhan holan Ibana do, Naumboto na buni dohot na patar. Ibana do Parasiroha, Naulibasa. Ibana do Debata

(Allah), ndang adong tuhan holan Ibana do, Harajaon, Nabadia, Na Maduma, Na mangalehon Hadameon, Na Mangaradoti, Na Mulajadi Nagogo, Na Marhuaso Bolon, Nampuna Hasangapon, Na Badia, dao do bahanbahen nasida marangkup Ibana. Ibana do Debata (Allah), Panompa Bolon, Namanjadihon Saluhut, Namambahen rupa. Ibana do nampuna sasude goargoar na lehet. Saluhut na Manggulmit pangisi ni banua ginjang dohot banua toru pasangaphon Ibana dung i Ibana do Na Mulajadi Nagogo, Mahabijaksana. (59:23—25)

مُوَاتِهِ الْذِي كَرَّالَهُ لِلْأَهْوَاءِ، أَنْتَ مِنْ
الْقَدُّوسِ السَّلَمِ الْمُؤْمِنُ الْمُحْسِنُ الْعَزِيزُ
الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ دُسْبِحَنَ اللَّهُو صَمَّا يُشَرِّكُونَ
مُوَاتِهِ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمَصَوِّرُ لَهُ الْأَنْشَاءُ
الْحُسْنَى، يُسَيِّئُهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمَعْنِيمُ
الحضر : ٢٣ - ٢٥

(2) SURUSURUAN

Hata Surusuruan mangihuthon lapatanna ima namamboan Pada. Ima gabe hatorangan tujuan ni surusuruan i. Surusuruan i mamboan parpoda-an sian Allah (Debata) asa dipasahat HalomoonNa tu hasiangan on. Dibagasan partondion pangkorhon ni surusuruan i langsung bekerja ndang boi diambati. Jolma na mangalo tu surusuruan i lapatanna nasida manutup masuk Sinondang Ni Tuhan i tu roha ni manisia.

Holan tu Debata (Allah) do Saluhutna Pujipujian, namanjadihon saluhut langit dohot tano, Na manjadihon surusuruan gabe utusan-utusan na marhabonghabong dua dohot tolu dohot opat. Debata (Allah) do na manambahon tu nanitompana i angka na nihalomohon-Na; Sasintongna Allah (Debata) marnuaso tu saluhut. (35:2)

Dokma: "Manang ise gabe musu tu si Jibril, — ala sasintongna ibana do na patuathon Qur'an i tu roham dohot izin ni Debata (Allah); mambonarhon angka Kalam (Barita Na Uli) naung tuat parjolo i, dohot sipatudu dalan dohot Barita Na Uli tu jolma na porsea i. Manang ise gabe musu ni Debata (Allah) dohot surusuruanna i dohot si Jibril dohot si Mikail, jadi sasintongna Debata (Allah) gabe musu ni jolma na so porsea i. (2:98—99)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاءَ عَلٰى
الْمَلِئَكَةِ رُسُلًا أُولَئِنَّ أَجِنْحَةَ مَشْنَى وَثُلَّتَ
وَزُبْرَةٌ، يَرِيزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، إِنَّ اللّٰهَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

فاطر: ۲

قُلْ مَنْ كَانَ عَذْوَاجِنْرِيدَ كَلَّةَ تَرَكَةَ عَلٰى
قَلْبِكَ بِرَادِنَ اشُو مُصَدَّقَاتِكَابِينَ يَدِيَوَةَ
هَذِي وَبَشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
مَنْ كَانَ عَذْوَاجِنْرِيدَ كَلَّةَ تَرَكَةَ عَلٰى
جِنْرِيدَ وَبِنَكَلَ فَيَانَ اللّٰهَ عَدْوَةَ
لِلْغُفْرَىنَ

البقرة: ۹۸-۹۹

Ndada pola habonaran i lan pe diadophon bohimu tu habinsaran manang tu barat alai habonaron ima porsea tu Debata (Allah), tu Ari nanaeng Ro, tu Surusuruan, tu Al-Kitab dohot tu Panuri-rangpanurirang dung i dilehon artana na ni haholonganna tu sisolhotna, dakkadanak na so marama, jolma na pogos, halak na marhutasada, jolma si pangidido; paluahon hatoban, jongjong martangiang, manggarar zakat; manepati janji (padan) molo mambahen janji (padan), benget manaon haberniton; ditingki parporangan; nasida do na na sintong hata dung i nasida do na mangoloi Hata ni Tuhan i. (2:178)

Na porsea do Panurirang i tu Barita na Uli na tuat sian Debata (Allah), suang songon i do tong jolma na porsea i; saluhut porsea tu Debata (Allah) dohot tu SurusuruanNya i, dohot tu Al-KitabNa i, dohot tu PanurirangNa i. (2:286)

Dipillit Debata (Allah) UtusanutusanNa i sian tongatonga ni SurusuruanNa dohot sian manisia i. Sasintongna Debata (Allah) Manangihon, Manaili. (22:76)

Hamu jolma naporsea! porsea ma tu Debata (Allah) dohot tu PanurirangpanurirangNa i, dohot tu Al-KitabNa i na dilehon Ibana tu PanurirangNa i dohot tu Al-Kitab naung ni lehon na parjolo i. Manang ise na mangose tu Debata (Allah) dohot tu SurusuruanNa dohot tu Al-KitabNa, dohot tu PanurirangNa dohot tu Ari na Ro i, jadi sasintongna ibana nunga madabu tu haliluon. (4:137)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُؤْتُوا مَا جُنُونُكُمْ قَبْلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَنْ
يَأْتِيَهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَالْمُلْكُكَةُ وَالْكِتَابُ وَ
النَّبِيُّنَ، وَأَنَّ الْمَالَ عَلَىٰ حُكْمِهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينَ وَإِنَّ السَّيِّدِينَ وَ
السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الْعُلُوَّةَ
وَأَقَى الرَّزْكَوَّةَ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَعْمَلُونَ هُنَّا
حَمْدُهُ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
وَجَاهِيَّنَ الْبَارِزِينَ، وَلَيْكَ لَذَّيْنَ مَدَّ قُوَّاتِ
وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُتَقْتَلُونَ ۝

البقرة : ۱۷۸

أَمَّنِ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ لِلَّهِ مِنْ رَبِّهِ وَ
الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَّنْ يَأْتِيَهُ وَمَلِئَكَتِهِ
وَكُلُّ تُبْهِ وَرَسُلِهِ هُنَّ

البقرة : ۲۸۶

أَللَّهُ يَضْطَمِنُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ دُسْلًا وَ مِنَ
النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَوِيْنَعَبْصِيرُ

الحج : ۷۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتُوكُمْ مَا أَمْنَوْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
وَالْكِتَابُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابُ
الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلِهِ وَمَنْ يَخْفِي إِيمَانَهُ
وَمَلِئَكَتِهِ وَهُنَّبِهِ وَرَسُلِهِ وَالْيَوْمُ
الْآخِرُ فَقَدْ خَلَ ضَلَالًا بَعْدَهُ ۝

النساء : ۱۳۷

(3) AL - QURAN (AL - KITAB)

Al Quran ima goar na ni lehon ni Allah (Debata) sandiri tu Al Kitab na diwahukan tu Nabi na Badia ni halak Islam, disi adong uhum tu saluhut manisia. Hata "Al Quran" lapatanna sada buku na jotjot dijaha. Al Quran kenyataanna ima sada buku na luas dijaha jolma diportiboin. Hata i sandiri marlapatan sada buku manang poda : Dilehon manang dipasahat tu saluhut manisia.

Kitab on marlaku tu saledeng ni le lengna, hape kitabkitab na asing i marlaku holan sada masa dohot tu bangso na na tertentu.

Ahu do Debata (Allah) Siboto Saluhut.
On do Al-Kitab hasintongan, ndang
mardua roha tu isi nai, sipatudu dalam
tu habonaron. (2:2-3)

اللَّهُ ذِلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِينَ
البقرة : ٣-٢

On do sasintongna Al-Qur'an na Mar-
sangap i, Diramoti Kitab i nang isina.
(56:78-79)

إِنَّهُ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ
فِي كِتَبٍ مَخْنُونٍ
الواقعة : ٧٨-٧٩

Marisihon parenta tu saleleng ni
le lengna. (98:4)

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ
البينة : ٤

Debata (Allah) do na manongoshon
Hata na Uli i — ima Al-Kitab, ayat na
sada tu ayat na deba ma siaminaminan
diulakulak alai toppana marragamragam.
Madotdot hulinghuling ni jolma mabiar
tu Tuhan ditingki dijahanasida, dung i

أَنَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كِتَابًا مُتَّسِعًا
تَقْشِيرٌ مِنْهُ جَلُودُ الْذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ

hulinghuling dohot rohanasida gabe lambok ditingki manggingotingot Debata (Allah). Songon i do sipatudu ni Debata (Allah); dohot Al-KitabNa i di lehon Ibana sipatudu ise na hombar tu lomena. Jala manang ise diputushon Debata (Allah) lili ndang adong sipatudu dalan tu ibana
(39 : 24)

تَلِينُنْ جَلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ لَى ذِكْرِ إِلَهٍ
ذَلِكَ هُدًى الَّتِي يَمْهُى بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا كَانَ مِنْ هَالِئِينَ
الزمر : ٢٤

Debata (Allah) Sipujion, Naulibasa, Nauliutus. Huhatindanghon hamisongon bukti, Al-Kitab asa jotjot dijaha hatahatana torang, asa boi momo antusanmuna. Dohot sasintongna, dibagasan dame do hami rap dohot Induk ni Al-Kitab i, Timbo do i jala Bijaksana.
(43: 2 – 5)

حَمَدٌ
وَالْكِتَبُ الْمُبِينُ
رَاجِحَةً لَهُ تُرَازًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَفَوَّظُونَ
وَرَأَيْهُ فِي أُقْمَدِ الْكِتَبِ لَكَمَنَّاتِكَلِيلٍ حَمِيمَةٌ
الزخرف : ٥-٢

Sasintongna naung Hami taoarhon do parpodaan uhun tu saluhut banua ginjang dohot tu banua toru nang tu dolokdolok, alai sude nasida ndang ra manjalo, dibagasan biar do nasida tu si. Hape jelma i diporsan do i. Sasintongna jelma i tahan do manaon haberniton jala ndang disarihon dirina. Songon pangkorhonna uhunon ni Debata (Allah) do jelma parjehe baoa dohot parjehe boruboru, angka jelma na mandok "Maranak Debata" nang angka boruboru na mandok "maranak Debata" ai ro do muse Debata (Allah) dohot asiisi ni rohaNa tu angka baoa na porsea dohot tu boruboru na porsea; Ala Debata (Allah) do Pangampun Bolon, Parasiroha i.
(33:73–74)

إِثْمَارَ حَضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَيْنَ أَنَّ يَخْمَلَنَّهَا وَ
آشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْنَاهَا الْإِنْسَانُ إِلَيْهِ كَانَ
ظَلْمًا مَجْهُولًا
لِيَعُوْبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقَةِ
الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوْبَ اللَّهُ عَنِ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

الاحزاب : ٧٣ - ٧٤

Hatahan ma, "Umpamana angka jolma dohot jin marpungu martutup laho mambahen tudosan ni Al-Qur'an on, ndang tolap hasanggupon nasida mambahen tudosan ni i, lan pe nasida masi urupurupan. Dohot sasintongna nunga hubahen Hami hatorangan marragamragam tu jolma i parumpamaan dibagan Al-Qur'an on, alai torop do sian tongatonga ni manisia i ndang dijalo aha pe manginona tu si, gabe si pangoseose.

(17:89, 90)

Astuanna Al-Qur'an on Hupatuat tu ginjang ni dolok i, idaonmu do dolok i gabe unduk jala matapor marpuntaran ala ni biarna tu Debata (Allah). Parumpamaan on ma Huadophon Hami tu jolma i, asa marpikkir nasida. (59:22)

On do sada Kitab na marsangap i ima Al-Qur'an naung hulehon Hami, gok haborkaton, na manggonopi Kalam na parjolo i, asa lehon ma sipaingot tu Ummul — Qura (Ibukota) ima na termasuk tu gomgoman ni Mekkah dohot hombar balokna i.

(6:93)

Sadarion nunga hupagonop ugamomu na marimpola tu hamu, jala nunga ris hubahen panondangionHu tu hamu, Jala nunga huhalomohon Islam tu ho gabe ugamom.

(5:4)

On do Al Quran na Hupatuat Hami; na gok sahala i ihuthon ma i, unduk ma, asa dapot asiasi hamu. (6:156)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعُتِ الْأَرْضُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ
يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَمَّا تُوَكِّدُ بِهِ شَفَاعَةٍ
لَّوْكَاهَ بَخْمَصُهُ لِبَعْضِ قَمِيزِهِ ○
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا يَلْنَاسَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ
كُلِّ مَشْيِلٍ دَفَّابٍ أَخْنَالَتَاسِ إِلَّا كُفُورًا ○
بنی اسراءيل : ٩٠-٨٩

لَوْأَنَّرَزْنَا هَذَا النَّذْرَانَ عَلَىٰ جَبَّابِ لَرَآيْتَهُ
خَائِشَعًا تَسْتَحْسَرُهُ عَامِنْ حَمْشِيَّةَ الْمُوَدَّةِ تَلْتَلَهُ
إِذَا نَشَأْتَ نَضِرَ بِهَا يَلْنَاسَ لَعْلَمَهُ يَتَنَعَّذُونَهُ

وَهَذَا كِتَابٌ آثَرَنَّاهُ مُبَرَّكٌ مُصَدِّقٌ
الَّذِي يَنْبَيِنَ يَمَدَّ بِهِ وَيُشَذِّرُ أَمَّا الْقُرْآنِ وَ
مِنْ حَوْلَهَا.

الانعام: ٩٣

أَلَيْوَمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَأَتَمَّتُ
عَلَيْكُمْ زِفَرَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْأَدْسَلَامَ
وَدِينَكُمْ،
السادسة : ٤

وَهَذَا كِتَابٌ آثَرَنَّاهُ مُبَرَّكٌ فَاتَّسِعُوهُ
وَأَتَقْفُوا الْعَلَّامَ شَرْحَمُونَ ○ الرَّبَّانِي : ١٥٦

Marangsurangsur do Hupatuat Hami isi ni Al Quran i, ima na gabe sipalambok huhut basabasa tu angka jolma na porsea i; alai angka jolma na so porsea jala pargeduk ndang dapot laba alai holan harugian do. (17:83)

وَتَبَرَّزُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِلنَّاسِ مِنْ نَارٍ وَكَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ رَأْسًا
خَسَارًا ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(4) PANURIRANG PANURIRANG

Al Quran paboahon ia Allah (Debata) nunga mambahen sipatudu tu angka houm, jala huhut pabotohon hasintongan ni angka Panurirangpanurirang i. Panurirangpanurirang ditongos tu houm tertentu dohot tingki na tertentu, laho mamboan nasoda tu Allah (Debata). Panurirang Muhammad ima Panurirang na parpudi na mamboan uhum, pangajaran ni Islam nunga manggonopi saluhut ajaranajaran na ro parjolo i. Pintu ni haroro ni Panurirang totop do tarbukka, alai holan ditongatonga ni Islam do. Dungi Panurirang i ima songon refleksi sian sinondang ni Muhammad saw, jla ndang mamboan uhum na imbaru. Al Quran ndang holan pato-ranghon aspek aspek posotif taringot tu panurirang i, alai dohot do dipatorang na mangalo Panurirang. Parao ima gabe sada tanda dibahen di Al Quran.

Dipillit Debata (Allah) do Utusanutusana i sian tongatonga ni Surusuruan i dohot sian angka manisia. Sasintonga Debata (Allah) Manangihon, Manaili. (22:76)

Dohot sasintongna naung hutongos Hami do tu tongatonga ni ganupganup bangso sahalak Utusan na mangajarhon "Somba ma Debata (Allah) pasiding ma thaghut (marlobilobi). "Dung i do deba sian tongatonga nasida i di lehon Tuhan tudutudu (petunjuk) dung i adong muse do deba siang tongatonganasida i patut manaon na bernít. Dung i mar-dalan ma hamu di tano on, jala tailihon hamu aha do pangkorhona tu jolma na mangalo angka panurirang i. (16:37)

آتَهُ يَضْطَقِفُونَ مِنَ الْحَيَاةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ،
إِنَّ اللَّهَ سَوِيفٌ بِعِصْرٍ ۝

الحج : ٧٦

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا
اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ ، فَيَمْنَهُمْ مَنْ هَدَى
اللَّهُ وَمَنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الْمُصْلَةُ ،
فَسَيِّرُوهُمْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوهُمْ كَيْفَ كَانُ
عَاقِبَةُ الْمُكَوَّبِينَ ۝

النحل : ٢٧

Uju Tuhanmi mandok tu surusuruan i: "Bahanonhu do sahalak Khalifah di tano on", di dok nasida: BahanonMu do disi hagaoron gabe masipuasaan pausehon mudar? — hape hami do na pabadiahon huhut mujimuji Ho jala mangudushon Ho". Didok Ibana: "Ahu do na lobi umboto na so binotomuna".

(2.31)

وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيلَكُمْ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يُقْسِطُ فِيمَا مَا وَيَسْهُلُ الْوَمَاءَ، وَتَحْنَ نُسُكَهُ بِحَمْوَكَ وَنُقَوْسُكَ، قَالَ إِنِّي آغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ^٩

البقرة : ٣١

رَأَنَا أَوْ حَيَّنَا لَيْكَ كَمَا أَوْ حَيَّنَا لَنِي ثُوَّجَ وَالثَّقِيبَنَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَوْحَيَنَا لَنِي إِبْرَاهِيمَ رَاسْمُوئِيلَ وَرَاحِشَقَ وَيَغْقُوبَ وَالْأَشْبَاطَ وَعِيشَى وَأَتَيْوَبَ وَيَمُونَسَ وَهُرُونَ وَسَلَيْمَنَ، وَأَتَيْنَا دَاؤَدَ زَبُوْدَا^{١٠} وَرُسْلَانَ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِهِ وَرُسْلَانَ لَهُ نَقْصُصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، وَكَلَمَ اللَّهِ مُوسَى تَكْلِيْمَانَ

النَّسَاءُ : ١٦٥ - ١٦٤

Sasintongna, naung Hu lehon Hami do tu Ho Pangungkapon songon naung hulehon Hami tu si Naok dohot tu panurirangpanurirang andorang so nasida i; suang songon i Huungkaphon Hami do si Abraham dohot tu si Ismail dohot tu si Isak dohot tu si Jacob dohot tu anak-pahompuna dohot tu Jesus dohot si Jaob dohot si Yunus dohot si Aron dohot si Salomo, dung i nunga hulehon Hami Zabur tu si Daud. Adong do manang piga panurirang-panurirang i na hupabotohon Hami tu ho andorang so on, dung i adong do manang piga na so Hupabotohon Hami tu ho nunga sumurung si Musa i mang-katai dohot Debata (Allah).

(4:164, 165)

وَإِذَا بَشَّرَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِحَكِيمَتِ فَأَتَقْمَهُنَّ، قَالَ رَبِّنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمَنْ ذَرْتَ بَيْتِي، قَالَ لَا يَنْكَلِ عَنْهُ الرَّظِيمَيْنَ^{١١}

البقرة : ١٣٥

Ingot uju diunjuni Tuhanna i si Abraham dohot manang piga parenta, di got i ibana' do sudena, Ibana merfirman: "Sasintongna naeng bahanon-Hu do ho gabe Imam tu jolma i". Ibana (Abraham) mandok: Sian pomparanhу bahan ma imam." Debata (Allah) merfirman: "Podangku ndang manginona tu jolma pardosa'. (2:125)

Dohon sasintongna hutongos Hami do Kitab tu si Musa huhut huihuthon Hami do panurirangpanurirang, naung tinandamuna, dipudina, dung i Hulehon Hami tu Jesus anak ni si Maria i tanda-tanda na tangkas, dung i hupagomos Hami do ibana dohot Tondi Parbadia alai tontong do dialo hamu ibana. Jadi boasa ganup ro panurirang patindang-hon parsiajaran na so dihalomohon hisap ni dagingmu, dipaburnang hamu do dirimu, deba dialo hamu na debanari dipusa hamu? (2: 88)

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَقَفَّيْنَا بِهِ
بَغْوَةً بِالرَّسُلِ رَ وَأَتَيْنَا عَيْنَيْنَا بَنَتَ
مَزِيْمَةً لَبَيْتِنَتِ وَأَيَّدَنَمْ بِرْوَجَ الْقُدُسِ.
أَفَلَمَّا جَاءَكُنَّدَ رَسُولٌ يَمَا لَا تَفْهَمَ
آتَيْنَاكُمْ أَسْتَكْبَرَتُمْ، قَفَرِيْقَا كَذَبَثَةَ
فَرِيْقَا تَقْشِلُونَ ۝

القراءة: ۸۸

Hami do patolhashon halak Israil i manaripari laut i, ditingki si Farao dohot paronganna i mangalele nasida dibagasan durhaka dungi aniaya, ditingki ibana mogapmogap, ibana mandok, "Porsea do ahu, ndang adong Tuhan na leban holan na nihaporseaon ni bangso Israil i, dohot do ahu ihut maporus diringku tu Ibana. Beha! Saonnari! Sasintongna nunga mangalo hian ho andorang so on, holan na manggaori dō jolma songon ho. "Jadi sian sadarion ndang busuk bangkemi bahanonNami, asa gabe sada Tanda tu jolma i angka na naeng ro dung salpu ho. Dohot Sasintongna godang do jolma i tois tu TandatandaNami." (10:91—93)

وَجَاءَنَا يَبْرَئِي رَسَارَاءِيْلَ الْجَنَّرَ
فَأَتَيْهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهُ بَغْيَاوَةً
عَدَّهُ وَأَحْتَى إِذَا ذَرَكَهُ الْعَرْقُ، قَالَ أَمَّنْ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهُ الَّذِي أَمَّنَتْ بِهِ
بَنَتُوا الرَّسَارَاءِيْلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝
الَّذِنْ وَقَدْ عَصَيْتَ تَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ
الْمُفْسِدِيْنَ ۝

فَإِنَّمَا تُنْقِيْكَ بِبَدَنَكَ يَشْكُوَتَ لِمَنْ
خَلَقَكَ أَيَّهَا، وَرَانَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ
أَيَّتَنَا لَخَفِلُونَ ۝ يُونُس: ۹۱-۹۲

Paboa ma turiturian ni si Maria na dibagasan buku i, ditingki ibana padaohon dirina tu sada inganan sian angka sisolhotna disabola habinsaran. Jadi dibahen ma dinding sian abit asa pulik sian nasida, dung i Hu tongos Hami ma

وَأَذْهَبَ الْكِتَبِ مَزِيْمَةً إِذَا أَتَيْجَدَثْ مِنْ
أَهْلِمَّا مَكَانًا شَرْقِيًّا
فَأَتَيْجَدَثْ مِنْ دُونِهِ حَجَابًا يَنَازِلُنَا

Surusuruan Nami tu ibana, dung, dung i ibana tarberengna suman tu baoa na jeges. Gabe didok si Maria, "Marlindung ma ahu tu Debata (Allah) Naulibasa sian ho, molo tung mansai mabiarho tu Ibana. Ibana, surusuruan i, mangalusi, "Sasintongna holan utusan ni Tuhan i do ahu, asa hupasahat tu ho barita na uli taringot tu sahalak dakndak baoa na badia". Didok si Maria, "Songon dia gabe adong di ahu sahalak anak baoa, hape ndang hea sahalak pe baoa mandonganai ahu, dung ndang ahu marniulahan na geduk? Ibana, surusuruan i, mangalusi, "Songon i ma na masa." Alai Tuhanmu nunga manghatahon, "Momo do i di Ahu; Hubahen Hami pe si songon i asa adong gabe sada tanda tu manisia i huhut pataridahon Haulibasaonnami asa gonop padan i. Dung i digabegabehon si Maria ma ibana, gabe ditabunihon ma dirina dohot ibana tu inganan na dao. Jadi mangae jala hansit laho manubuhon dakdanak i digogohon laho tu sangkabona batang ni kurma. Laos didok ibana, "Amangoi! ambulusan na ma molo mate ahu andorang so on asa dihalupahon saluhutna i!" Dung i ibana, surusuruan i, marsurak tu ibana sian toruna, "Unang ma ho marsak. Tuhanmu nunga mambahan anak ni sunge di torumi; "Dung i huturhon ma mandompakhon ho bona ni korma i, gabe madabu parbue ni korma i tu ho na lamun jala tabo. Jadi, allang huhut minum, dung i paborgo ma matami. Molo diberang ho jolma, hatahon ma, "Sasintongna naung martahi do ahu tu Debata (Allah) Parasiroha i saut

لَيْهَا رُحْتَنَ تَمَثَّلَ لَهَا بَشِّرًا سُوِّيًّا
قَاتَّلَهُ أَعْوَذُ بِالرَّحْمَنِ مِثْكَ رَانَ كُنْتَ
تَقْيَاهُ
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ وَلَا أَهْبَطَ لَكِ
مُلْمَأَرِحِيًّا
قَاتَّلَهُ أَئْلَى يَكُونُ لِي غُلْمَةً كَمْ يَمْسِفُنِي بَشَّرٌ
وَلَدَكَ بَهْيَاهُ
قَالَ كَذَلِكِ. قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلَيَّ حَتَّىٰ وَ
لَيَنْجُلَّهُ أَيَّةً لِلثَّالِثِ وَرَحْمَةً وَنَّا، وَكَانَ آمِرًا
مَغْضُيًّا
لَعَمَلَهُ فَائِتَهَدَتْ بِهِ مَحَاجَاتُهُ
فَاجْتَاءَهَا الْمَعَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. قَالَ
لِمَنْتَزَنِي مِثْ قَبْلَهُ هَذَا وَكُنْتَ نَسِيَا
مَنْسِيًّا
فَتَادَ سَمَا مِنْ تَهْمَمَا آلَهَ تَخْزِينٍ قَدْ جَعَلَ
رَبِّكِ تَحْتَكَ سَرِيًّا
وَهُرَيْ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْهِ
رَطَبَيَا جَبِيًّا
فَخُلِّنِ وَاشْرَبِنِ وَتَرَيْ عَيْنَاهُ، فَإِمَّا تَرَيْنِ
مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُوْلَيْ إِنِّي نَذَرْتُ
لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

marpuasa. Sandok ndang boi ahu mangkatahai sadarion dohot sahalak jolma pe." Diboan si Maria ma ibana tu angka sisolhotna, dohot mangoppna. Nasida mandok, "He Maria, sasintongna honunga mangulahon parparangeon na hodar! "He iboto boru ni Aron, ndang na jahat amangmu jala ndang muse inangmu si babijalang!" Dung i si Maria patudu dakdanak i, "Songondia hamidapot mangkatai dohot sahalak dakdanak na diparorot?" Didok ibana, anak ni si Maria i, "Sasintongna ahu naposo ni Debata (Allah) do. Ibana mangalehon tu ahu sada Al Kitab dung i Ibana nunga mambahan ahu gabe panurirang; Marimpola do ahu dibahen Debata (Allah) didia pe ahu meringinan, dung i nunga mamarentahon tu ahu martiangiang huhut manggarar zakat saleleng ngolungku; Dibahen Ibana ahu laho pasangaphon inangpangintubungku, ndang dibahen ahu gabe si ginjang roha dohot sial. "Hahorason do tu ahu ditingki parsoronganku, suang songon i ditingki parmondingku, ditingki ahu hehe, mulak mangolu muse." Ima Jesus anak ni si Maria. Manghatindangkon sada habonaran manginona tu surasura nasida i.

(19:17–35)

نَأَتَثِيْهَ تَوْمَهَا تَخْوِلُهُ، قَالُوا يَمْزِيْهَ
لَقَذِّجِشْتِ شَيْئًا فَرِيْيَاً ○
يَا خَسْتْ هَرْدَقْ مَا كَانَ آبُولُتْ امْرَآسْنَهْ دَمَا
كَانَثْ أَمْلَثْ بَعْيَاهْ جَهْ
نَأَشَارَتْ رَاهِيْوْ، قَالُوا كَيْنَفْ نَحْلِمْ مَنْ كَانَ
فِي الْمَهْدِ صَيْيَا ○
قَالَ رَاهِيْ عَبْدُ اللَّهِ أَتَسْنِيَ الْكِتَبَ وَجَعَلَنِي
نَيْيَا ○
وَجَعَلَنِي مُبَرَّكًا أَيْنَ مَا كُنْتَ مَأْذُ صَنْفِي
يَا الصَّلَوةَ وَالرَّخْوَةَ مَا دَمْتَ حَبِيَا ○
وَبَرِّأْ بَوْالِدَتِي، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيَا ○
وَالسَّلَمُ عَلَيْ يَوْمَ دُلْذُ دَيْوَمَأْمُزُ دَيْوَمَهْ
أَبْعَثْ كَيْيَا
ذَلِكَ عِينَسَى ائْنَمَزِيْمَهْ، قَوْلَ الْعَقَّى الَّذِي فَنِيْو
يَفْتَرُونَ ○

مریم: ۳۵-۱۷

وَإِذَا خَلَّ اللَّهُ مِنْشَأَ النَّبِيِّنَ لَمَّا
أَتَيْنَتْكُمْ مِنْ كِتْبٍ وَحُكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ
دَسْوَلَ مُصَدِّقٌ لَمَّا مَعَكُمْ لَتَؤْمِنُنَّ بِهِ

Dung i ingot ma di tingki Debata (Allah) mambahan parpadanan sian Ahli Kitab marhitehitehon angka panurirangpanurirang i, jadi "Angka naung Hulehon tu hamu sian Kitab dohot Hikmat, dung i ro ma tu hamu sahalak panurirang laho manggonopi barita na uli naadong dihamu, tingkos ma hamu

marhaporseaon tu ibana hisar ma hamu mangurupi ibana. "Ivana mandok muse: "Dipintori jala dohot do hamu martanggung jawab na Huusunghon tu hamu mangonai i?" Dalusi nasida, "Hupintori hami: "Didok Ibana, "Saonnari gabe saksi ma hamu jala Ahu pe songon hamu dohot gabe saksi." (3:82)

Ingotma ditingki Hami mangalap parpadanan sian nasida sian angka panurirang nasida i, dohot sian ho, dohot sian si Noak, dohot si Abraham, dohot si Musa dohot Jesus anak ni si Maria, jala sasintongna Hami naung hea do mangalap parpadanan na gomos sian nasida i. (33:8)

وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ هَآتِرَشْدَ وَأَخَذَ شَمَّ عَلَى
ذِلْكُمْ رَاضِيَنِي، قَالُوا أَقْرَزَنَا، قَالَ
فَاشَهَدُوا وَأَنَا مَعَهُمْ إِنَّ الشَّهِيدَ يَنْ
ال عمران : ٨٢

وَلَذَا أَخَذَنَا مِنَ الظِّيَّنَ مِنْ شَاقِهِمْ وَمِنْكَ وَ
مِنْ نُورِ حَدَابِرِهِنَّمَةَ مُؤْسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذَنَا مِنْهُمْ قِيَّشًا فَاغْلَيْظًا
الاحزاب : ٨

(5) PANURIRANG NA BADIA NI ISLAM

Nabi Muhammad saw tubu di Mekkah dibulan Agustus tahun 570 A.D. Dibahen do goarna Muhammad na marlapatan "na dipuji." Ditingki marumur diginjang ni tolupulu taon, na diparsinta rohana holan tu Tuhan do. Dalan mangalo angka sipele begu di Mekkah, ibana padaohon dirina di sada liang hirahira tolu mil sian i. Ditingki ibana marumur 40 taon, manjalo wahyu na parjolo dibagasan liang i. Dibagasan wahyu i, ima ayat parjolo di bagasan Al Quran i, tu ibana diparentahan manjaha-hon/manghatindangkon Goar ni DEBATA (ALLAH) YANG MAHA ESA, na manompa manisia dohot na manaburhon boni haholongan-Na dohot haholongan ni naposo-Na i. Wahyu on patoranghon ia portibi on ajaron-Na do dohot marragamragam parbinotoan marhitehita pena. Ayatayat on ma inti manang ringkasan sian Al Quran.

O Panindangi! Dohot sasintongna nunga hutongos Hami ho asa gabe saksi huhut mamboan barita na uli jala paboahon hata sipaingot. Gabe panindangi ni Debata hombar tu parentahNa, songon panondang mata ni ari na sihar i. Pasahat ma barita na uli i tu jolma na porsea i, ia tu nasida lehonon ni Debata (Allah) do silua na balga.

(33:46—48)

Hatahon ma, "He manusia! "Sasintongna ahu Panurirang do tu hamu sude na sian Debata (Allah), nampuna harajaon banua ginjang dohot toru. Ndang adong na leban patut si sombaon holan

يَا إِنَّمَا الَّذِي رَأَى نَّاسٌ لَكُمْ شَاهِدٌ
مِّنْهُنَّ أَنَّهُمْ يَزِيرُونَ
وَذَلِكَ عِبَارَةٌ اتَّوَيْلَةٌ وَسَرَاجًا مُّنِيرًا
وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقَنَّ بِهِمْ مِنَ اللَّهِ
فَضْلًا كَبِيرًا

الاحزاب : ٤٦ - ٤٨

قُلْ يَا إِنَّمَا النَّاسُ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ يَنْعَمُ
بِجَنَاحِ الْمَلَائِكَةِ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَكْرَمَ لَا يَحْوِي مِيمَيْنَ وَيَمِيْنَ قَاتِلُوا بِاللَّهِ

Debata (Allah) do. Ibana pangoluhon jala pamondinghon. Antong porsea ma hamu tu Debata (Allah) dohot tu Panurirang-Na i; Panurirang na Ummi, na porsea tu Debata (Allah) dohot hata-hataNa; ihuthan ma ibana asa mandapot sipatudu hamu.” (7:159)

رَسُولُهُ الْيَتِيُّ الْمُعِيْدُ إِلَيْهِ مِنْ يَمِنْ وَمِنْ
كَلِمَتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّهُمْ تَهْتَدُونَ
الاعراف : ١٥٩

Ndada hutongos Hami ho alai holan pasahathon barita na uli i huhut mangalean hata sipaingot tu saluhut jolma i, alai bahat do jolma na so umboto.
(34:29)

وَمَا آتَى سَلْنَكَ إِلَّا حَمَةً نِلَنَّا يَسْبِئُ رَأْوَ
نَزِيرًا وَلَحْنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
٢٩ :

Dohot sasintongna, holan tu ho do parjambaran na so mintop. Dohot sasintongna, situtu do ho par akhlaq na luhur.
(68:4, 5)

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَفْتُوحٍ
وَلَا تَكُنْ تَعْلَمُ خُلُقَ عَظِيمٍ
العلم : ٤-٥

Ndada Muhammad i amang ni sahal sian tongatonga ni anak baoamu, alai ibana ima panurirang ni Debata jala sahap ni saluhut panurirangpanurirang, Debata do Siboto Saluhut. (33:41)

مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَخْوَهُ مِنْ زَجَارِكُمْ وَلِنَ
رَسُولًا إِنَّهُ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ
يُكْلِمُ هُنَّا عَلَيْهِمَا
الاحزاب : ٤١

Dapotonmuna do sitiruon sihadengganon ni Rasulullah i, angka jolma i na mangarophon pajumpang dohot Debata (Allah) dohot Ari na naeng Ro i jala na sai tontong marningot Debata (Allah).
(33:22)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشْوَةٌ
حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَزْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
الاحزاب : ٢٢

Sasintongna Debata (Allah) manongoshon asiiasi-Na tu Panurirang on dohot angka surusuruan-Na manangianghon ibana. Hamu angka na porsea! Hamu pe ingkon do manongoshon selawat (hahorason) tu ibana, Panurirang i, pasahat ma salam (horas) tu ibana tangiang parhorasan.

(33:57)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِكَتَهُ يُصْلُوْنَ عَلَى التَّبَّيِّنِ دَيَاً يَمْهُا
الْأَذْيَنَ أَمْنُوا صَلَوْا عَلَيْنَا وَسَلَمُوا اتَّسِعُمَا
الاحزاب : ٥٧

Muhammad ima Panurirang ni Debata (Allah): Angka jolma na rap dohot ibana rimas tu angka jolma na so porsea i, alai lambok di tongatonga nasida sendiri. Dibereng ho do nasida unduk huhut manungkap di tingki martangiang (sembahyang), mangalului karunia Ni Debata (Allah) dohot Haloomoon-Na. Tandaon do nasida sian bohiniasida, bogasbogas ni namanungkap i. Suang songon i do rumang taringot tu nasida i dibagasan Tourat. Dung i rumang taringot tu nasida dibagasan Padan na Imbaru ima umpama songon suansuanan na tubu tunasna, gabe togu, muse tunas i gabe ojak, jongjong hot dibona na i, sonang ma angka na manuan i — asa Ibana parohon muruknasida jolma na soporsea i ala disaksihonnasida i. Debata (Allah) nunga marpadan tu angka jolma sian tonga-tonganasida na porsea huhut marparange hadengganon hasesaon dohot parjambaran na balga i.

(48:30)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آتَاهُمْ
عَلَى الْكُفَّارِ حُكْمًا بِئْتَهُمْ تَرَاهُمْ ذُكْرًا
سَجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضَا نَارَ
سِيَّئَاتِهِنَّ فِي دُجُونٍ وَهُمْ مِنْ أَثْرَ السُّجُودِ
ذَرْلَكَ مَثَلُمُهُ فِي التَّوْرَةِ شَهِيدًا مَثَلُمُهُ
أَنْدَنْجِيلِي شَكْرَزِيجَ أَخْرَبَهُ بَطَاطَةَ فَازَرَةَ
قَاسْتَفَلَظَقَا شَتْوَى عَلَى سُوقِمِ يَغْوِي
الرَّزَاعَ لِيَغْوِيْنَهُ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ
الَّذِينَ أَمْنُوا وَمَوْلَوْا الصَّلِيْخَتَ وَنَهَمَ
مَغْفِرَةً وَآجِرًا حَظِيْنِمَاً

الفتح : ٣

فَلَدْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْسِنُونَ اللَّهُ قَاتِلُونَ

Hatahon ma, "Molo dihaholongi hamu Debata (Allah), ihuthon ma ahu, gabe

haholongan ni Debata do hamu huhut manesa dosamu. Ai Debata (Allah) do Pangampun Bolon, Parasairoha." Hatahon ma, "Oloi ma Debata dohot tu panurirang-Na; dung i molo mangose nasida, botorhamu ma, ia sasintongna Debata (Allah) ndang manghaholongi jolma na so porsea. (3:32, 33)

يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمْ، وَاللَّهُ عَفُوزٌ رَّحِيمٌ
○
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلُّو
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ أَعْلَمُ بِالْكُفَّارِينَ
آل عمران: ٣٢-٣٣

He panurirang! pasahat ma angka na dipatuat tu ho sian Tuhanmi; ai molo ndang dipatupa ho na si songon i, ndang dipasahat ho tongosan-Na i. Diramoti Debata (Allah) do ho sian tahitahi ni jolma. Sasintongna ndang dilehon Debata (Allah) sipatudu tu jolma na so porsea. (5:68)

إِنَّمَا يُهَا الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رِّبِّكَ، وَإِنَّ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا مَلَكَتْ رُسُلَتَهُ،
وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَآيَهُدُ
الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ ○

الساعة : ٦٨

(6) MARTAMIANG – SEMBAHYANG

Martamiang (sembahyang) ima tangga padua sian haojakon (fondasi) ni agama Islam, tangga parjolo ima haporseaon tu Debata (Allah).

Martamiang (sembahyang) ima sada dalan na mansai penting laho paojak-hon dohot pajongjonghon pardomuan ni manisia i tu na manompaNa (penciptaNya) laho manjalo hadonokonNa. On ma sada bukti na torang, ia Tuhan i mambege jala mangalehon alusNa tu tamiang na i. Na dimaksud dohot do'a dibagasan Islam ima parhubungan langsung pausehon nasa isi ni rohanta diadopan ni Debata (Allah) laho mangido Haberkaton, Asiasi dohot pasupasuna. Dibagasan tanging mardomu ma manisia i dohot Namanjadihon i.

Ndada pola diparentahan tu nasida holan asa mar-ibadah tu Debata (Allah) dohot saias ni roha dibagasan pangolloion tu adopan-Na dohot hatigoron, paojakhon tangiang huhut manggarar zakat. Na songon i do ugamo na singtong. (98:6)

Ndada Hutompa Jin dohot jolma i holan asa manomba tu Ahu. (51:57)

Jongjong huhut martangiang sian mata ni ari tarbonom sahat tu na holom, jaha ma Al-Qur'an i ditingki mareak torang ari. Sasintongna manjaha Al-Qur'an i ditingki mareak torang ari samurung do i dijalo Debata (Allah)." Dibagian ni borngin i hehe ma sian na modom i laho manjaha tamba ni

وَمَا أَمْرُوا لَا يَعْبُدُونَ اللَّهُ مُخْلُصِينَ لَهُ
الْتَّيْنَ هُنَّفَاءٌ وَمُؤْمِنُوا الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُو الْزَّكُوْهَ وَذَلِكَ وَيْنَ الْقِيمَةُ
البينة ٦ :

وَمَا كَلَّفْتُ الْجِنَّةَ وَالْأَنْسَى لِأَلْمَيْشَمَهُ فِي
الْذُرِّيَّتِ ٥ :

أَقْوِيَ الْصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ الظَّلَّ
وَقُزَّاتِ الْقَبْرِ، رَأَ قُزَّاتِ الْقَبْرِ كَانَ
مَشْهُودًا ٤ :

وَمِنَ الْأَنْهَى فَتَمَحَّذَ بِهِ تَافِلَةً لَكَ هَسَّى

partangiangan do i di ho. Aut beha Tuhanmi naeng mangangkat ho tu inganan na mansai tarpaji i. (17:79,80)

Paune ma sude sembahyang (tangiang) mi tarlobi sembahyang tonga borngin. Jongjong ma hamu diadopan ni Debata (Allah) dohot pangoloion. (2:239)

أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَعًا مَخْمُودًا
بَتِ اسْرَائِيلَ : ٧٩ - ٨٠

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى
وَقُوَّمُوا بِمَا فِي أَيْمَانِهِ
البقرة: ٢٣٩

(7) MARPUASO

Dibagasan Al Quran, mangonai tu na puasa nunga dipatorang, ima sian manogot sogot sahat tu namataniari bonom, dibulan Qamariah Ramadhan. Puasa on adong do songon latihan dibagasan parngoluon on taratur nadapot mamboan hadengganon dungi asa unang maol jolma i laho mandapot hahomion ni partondion. Jolma naung mangulahon parpuasaon gabe jaga mandalahanhon uhumuhum ni Tuhan i. Dungi puasa i pe manolong sasahalak laho mangulahon uhum i dohot sintong dohot denggan.

He jolma na porsea? diwajibhon do tu hamu marpuaso suang songon na tu jolma na jolo i, asa tarjaga hamu. Ditontuhon do sadia leleng puaso diwajibhon i, alai molo adong ditongatongamu marsahit manang dibagasan pardalan, diganti ma marpuaso di ari na asing sadia leleng ibana ndang marpuaso; di angka nasida boi marpuaso alai mangkorhon tu sahit wajib manggarar fidiah manang mangalehon sipanganon tu sahalak napogos. Dung i manang ise mangulahon hadengganon saias ni roha undengganan do i tu dirina. Molo marpuaso hamu lobi dumeggan do i tu hamu, molo diboto hamu.
(2:184,185)

بِأَيْمَانِ الَّذِينَ أَمْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْوِصِيمُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّهُمْ
تَتَّقُونَ

أَيَّا مَا شَدَدْنَا دُرْتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِينًا
أَوْ عَلَى سَفِيرٍ فَعَذَّةٌ وَمِنْ أَيْمَانِهِ أُخْرَهُ وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَذِيَّهُ طَعَامٌ وَشَكِيرٌ،
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَمُؤْمِنٌ بِخَيْرٍ لَهُ وَأَنَّ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَهُمْ إِنَّمَا تَنْهَى مُؤْمِنُونَ

البقرة : 184-185

(8) MANGALEHON ARTA TU DALAN NI DEBATA (ALLAH)

Pajak pendapatan marlapatan dibagasan Al Quran ima didok "Zakat". lapatan ni hataon ima paishon dohot namarmahanhon/manjaga/mamili. Dipapulik sian artanai deba bagian ni natorop/houm hamoraonnai, jadi natinggal i nunga dipaias/dibadiahon laho pargunahon ni halak nampu-nasa i. Jadi dohot selehonlehornai tu natorop na sisongon i — kesejateraan ni natorop i dapot dipature. Pajak pandapotan — zakat — ima tangga patoluhon dibagasan Islam, ala ni ima zakat on tarmasuk namansai porlu situtu di agama Islam taringot tu kewajiban sasalahak tu halak naasing.

Nunut pajongjonghon sembahyang (martangiang) huhut garar ma zakat sai oloi sintong Debata (Allah) rap dohot jolma na mangoloi i. (2:44)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ وَ
إذْكُحُوا مِمْوَالَةَ الرَّاكِعِينَ ○
البقرة : ٤٤

Jala lehononmu do tu sisolhotmu ba-gianna, songon i bagian ni na pogos, dohot tu jolma na marhutasada. Angka na si songon i do na mansai denggan tu angka jolma na mangalului harajaon ni Debata (Allah), ai nasida i do angka jolma naeng mandapot hasongan. (30:39)

فَاتَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمُشْكِنَ وَابنَ
السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ حَيْرَ لِلّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْرِحُونَ
التورم : ٣٩

Dibagasan arta ugasannasida i adong do hak ni nasida na mangido parsurup-an songon i muse tu na so ra mangido. (51:20)

وَفِي آمَوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُوفُونَ ○
الذريت : ٢٠

Di angka jolma dibagasan arta ugasannasida i adong do hak bagian ni naung ditontuhon. Tu nasida na mangido pangurupion dohot na so ra mangido.

(70:25, 26)

وَالْأَزِينَ فِي آمَوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ
لِتَشَاهِدُوا وَالْمَحْرُومُونَ

المعارج : ٢٦-٢٥

Sedekah i, holan tu joma na pogos do i dohot tu parhobas na papunguhon dohot tu na di elek rohana, manobus hatoban dohot tu angka jolma parutang dohot na mangulahon pasahthon hata ni Debata (Allah) dohot angka jolma na di pardalan, i sude parenta sian Debata (Allah). Debata (Allah) Siboto, Saluhut, Na Hot di Uhum i.

(9:60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ يَلْفَقِرَأَ وَالْمَسْكِينُونَ وَ
الْعِمَلَيْنَ عَلَيْهِمَا وَالْمُؤْمِنَةُ قُلُوبُهُمْ مَذْكُوَةٌ في
الرِّتَاقِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
ابْنِ السَّيِّدِيْلِ مَقْرِيَّضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلَيْهِ حِكْيَمٌ

التوبة : ٦٠

He jolma na porsea! Saboiboina balanjohon ma sian naung hulehon Hami tu hamu, andorang so ro arina na so adong be na manggadis dohot na manuhor ditingki i, songon i muse ndang adong be pardonganon ndang adong na padaohon habernton; angka na mangalo tu parenta on, ima angka jolma na mambahan pangaeon tu dirina sandiri.

(2:255)

إِنَّمَا الَّذِينَ أَمْنَوْا آثِنَفُّو امْتَنَّا
رَزْقَنَاكُمْ فَنِ قَبِيلَ آنِي بِأَنِي يَوْمَ لَا يَبْيَعُ
فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْخَفْرُونَ
هُمُ الظَّلِيمُونَ

البقرة : ٢٥٥

Astuan ni jolma na mambalanjohon arta ugasanna i tu dalan ni Debata (Allah), umpama sabiji boni sian i haruar pitu biur, ganupganup biur-mangharuarhon seratus biji. Hape Debata (Allah) marsilompit do lobi sian i dibahen balosna tu ise na dihalomohon Ibana dung i Debata (Allah) Mansai Bidang Lehonlehon-Na, Siboto Saluhut. Angka jolma na mambalanjohon arta ugasannasida tu dalan ni

مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ آمَوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ كَمَثُلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي حُلْ سُنْبُلَتُو مِنَّهُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
يُضَوِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَآيَةٌ عَلَيْهِمْ
الَّذِينَ يُنْفَقُونَ آمَوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ

Debata (Allah), dung i ndang dipaboa-boa nasida angka na ni balanjohon nasida i mamujimuji dirina, ndada muse pahansithon roha ni na manjalo i, tu nasida adong do parjambaran sian Tuhan nasida, jala ndang adong be sihabiaran manimpa nasida tu angka na naeng ro, jala muse ndang adong be hasusaan tu angka naung salpu i.

(2:262, 263)

Astuan ni jolma na mambalanjohon arta ugasannasida laho mangalului haloomoon ni Debata (Allah) huhut laho patoguhon handirion nasida ima diumpamahon sada porlak di inganan na timbo, dobar ma udan tu si, haruar ma sian i parbue dua hali lipat. Alai molo ndang ro pe nunga dengan. Di ida Debata (Allah) do saluhut parniulaon-muna i.

(2:266)

Parateatehon ma! Ise do angka jolma natarjou laho mambalanjohon arta ugasanna i didalan ni Debata (Allah); alai adong do ditongatongamo na holit. Manang ise na mangulahon si songon i, haholitonna do i tu dirina sandiri. Hape Debata (Allah) na Maduma Bolon; hamu do angka jolma i na pogos. Molo marjehe hamu tu pudi gabe gantion ni Ibana do hamu dohot houm na asing, dung i nasida i marimbar do sian hamu.

(47:39)

Angka jolma na mambalanjohon arta ugasannasida di dalan ni Debata (Allah) borngin nang arian, buni dohot patar,

الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنْتَلْهُمْ وَأَنْتَمْ لَا يُنْفِعُونَ مَا آتَيْتُمْ إِنَّمَا تَآتُهُمْ أَذًى إِنَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَكَذَّابٌ هُمْ يَخْرُجُونَ

البقرة : ٢٦٣ - ٢٦٤

وَمَثْلُ الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَقَهُمْ مَرْضَاتٍ إِنَّهُمْ تَشَيَّعُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثْلُ جَنَّةٍ يُرَبِّوُهُ أَصَابَهَا وَإِلَّا فَإِنَّهُمْ أَحْلَامًا ضَعْفَيْنِ فَإِنَّ لَهُمْ لَمَّا يُؤْنِبُهُمَا وَإِلَّا فَطَلْقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

البقرة : ٢٦٦

هَمَّا نَتَمْ هَوَّاءٌ سُذْعُونَ لَئِنْفَقُوا فِي سِيَّئِنَّ اللَّهُ قَمِنْكُمْ مَنْ يَتَبَعَّدُ وَمَنْ يَتَبَعَّلْ قَاتِمَّا يَتَخَدُّلْ عَنْ شَفَاعِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَهَمَّا الْفُقَرَاءُ وَلَمْ يَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدُّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونَ أَمْتَانَكُمْ

محمد : ٣٩

الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنْتَلْهُمْ وَأَنْتَمْ

di nasida adong do parjambaran dilambung ni Tuhan nasida, huhut ndang adong be si habiaran nasida laho sitanon nasida jala muse ndang adong be arsak di nasida.

(2:275)

سِرَّاً وَعَلَانِيَّةً فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عَنْهُ
رَّتِيْهُمْ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَخْزَنُونَ ۝

البقرة : ٢٧٥

(9) NAIK HAJI (MARHUTASADA TU BAGAS NI DEBATA – ALLAH)

Dibagasan Al Quran adong tarsurat namengua jibhon ganup paragama Islam laho naik haji tu Mekkah, sahali dibagasan ngoluna, molo jolma i adong hasangguponna mandalanhon dohot dipardalanan i ndang adong hasusaan. Pusat ni naik haji i ima di Ka'bah, manghihuthon na tarsurat dibagasan Al Quran, ima Bagas parjolo dipajongjong Debata bahan partamiangan. Tujuan ni naik haji i ima laho paojakhon roha paralea-leon Internasional ditongatongan ni halak Islam; muse ibadah ritual dibagasan i dapot manusathon pikkiran ni angka jolma nanaek haji i, ia tujuan ni parngoluan i sasintongna holan Tu Tuhan do.

Sasintongna mangonai tu angka jolma na so porsea i dohot na mambahen sungkot jolma i tu dalan ni Debata (Allah), dohot tu Masjidil Haram i, naung Hami bahan marimpola tu saluhut manisia, angka nasida na mari-nanganan disi dohot angka halak na ro-sian padang pasir i; dung i manang ise na martahi hajahaton disi laho mambahen haliluon sian dalan hasintongan dohot jungkat, bahanon do ibana mangae na bernit. Ingotma ditingki Hami patuduhon tu si Abarham inganan pajongongan ni Bagas ni Debata (Allah) i huhut marhata, "Unang marangkuphon manang aha pe dohot Ahu; jaga ma haiason ni Bagas-Hu angka nasida na tawaf (marhaliang), angka nasida na jongjong, angka na unduk dohot na manungkap

إِنَّمَا يَنْهَا كُفَّارٌ أَيْضًا ذَوَنْ حَنَسْ بِهِنْ
الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْجُومُ الْعَزَامُ الْأَذْنِيَّ تَحْلِلُهُ
بِلَّا يَرْأُونَ سَوَاءٌ إِلَّا تَعْلَمُ فِي هُوَ أَنَّهُ مَوْتُهُ
ئِذْ فَهُوَ بِالْعَادَةِ يُظْلَمُ ثُلُثَةُ مِنْ
كُلِّ أَهْلِ الْمَهْدِ
وَلَا يَهُوَ أَنَّ لَدَنْ رَوْمِيَّةَ تَحْكَمُ الْبَيْنِيَّتِ
أَنَّ لَا ئُشْرِيكَ يَهُ شَيْئًا وَ مَهْرَبَ تَهْرِيَّةَ
بِلَّا ئَهْيَنَّ وَ الْقَائِمِينَ وَ الرَّمَكَّةَ
الشَّمْخُودُ

marsembahyang. Dung i pabotohon tu manisia i naik haji. Gabe ro nasida tu ho mardalan pat, manghunduli unto na marniang, ro sian luat na dao. "Asa nasida dapot mamereng angka impola-impolana na diparade tu nasida, luhut asa dapot mandok goar ni Debata (Allah) saleleng ari-ari naung ditotuhon, angka naung dilehon Ibana tu nasida songon angka pinahan siopat pat. Jala boi do panganonmuna deba dung i lehon ma mangan angka jolma na susa dohot na pogos i. Dung i ingkon dipaias nasida ma harossamon ni dirinasida, digok i angka sasude nazarnazarna i, jala martawafma (marhaliang) di Bagas na robi i.

(22:26–30)

وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رَجَاءً وَ
عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ وَمِنْ كُلِّ نَّهَّيٍ
عَمِيقٍ ۝
لَيَشْهَدُوا مَنَّا فَيَرَى لَهُمْ يَذْكُرُوا أَسْمَهُ
الَّذِي قَرِئَ آيَاتُهُ مَفْلُوْمٍ عَلَى مَارِدَقَمْ وَنَّ
بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ فَكُلُّوا مِنْهَا وَآطِعُمُوا
إِلَيْا إِنَّهُمْ لَقَرِيبُونَ
ثُمَّ لَيَقْصُنُوا لَقَرْبَهُمْ وَلَيُؤْتُوا أُسْدُ ذَرَفَهُ
وَلَيَطْرُقُنُوا إِلَيْهِمُ الْغَيْثِيَقِ ۝

الحج: ۲۶-۳۰

Dibagasan adong do tandatanda na torang; ima inganan ni si Abarham jongjong; jala manang ise bongot tu bagasanna, sonang ma ibana. Diwajibbon Debata (Allah) do manisia i naik haji tu Bagas i, angka jolma na sanggup laho. tusan. Manang ise na so olo naik haji, sasintongna Debata (Allah) ndang mamorluhon manang aha pe sian hasiangan on.

(3:98)

فَيَوْمَ أَيَّتُكَ بَيْتَنِيْتُ مَقَامَ رَبِّ إِهِيمَةٍ وَمَنْ
دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا وَرَبِّهِ عَلَى النَّاسِ جَبَّ
الْبَيْتَ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِّنَلًا وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَنِ الْعَلَمِيَنَ ۝

آل عمران: ۹۸

Tingkina naik haji adong do manang piga bulan naung ditandai; jadi manang ise naung bulat rohana naeng mandalanhon naik haji dibagasan bulan i, ingkon botoon nasida do ia ibana ndang bolas manghatahon angka hisaphisap ni baoa dohot boruboru, dohot na mangalaosi patik ni Debata (Allah)

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ
الْحَجَّ قَلَّا فَرَثَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَأَنِّهَا أَلَّ فِي
الْحَجَّ وَمَا شَفَعَتْ لَوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ

jala martongkari ditingki ariari naik haji i. Angka hadenggaron aha pe na niula ingotma, sadenggandengan ni parbalanjoan ima takwa (oloi), holan tu Ahu ma mangoloi, he angka jolma na adong roha. (2:198)

اللَّهُمَّ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ حَيْثَ الرَّأْيُ
الشَّقَوْىٰ وَ اتَّقُونَ يَتَوَلِّ الْكُفَّارِ ۝
بِقَدَّةٍ ۚ ۝

(10) PASAHATHON BARITA NA ULJ I TU SALUHUT MANISIA

Pasahathon Baritabarita lumbalumba ni Tuhan, mangona do tu faktor mampangaruhi roha ni jolma na dituju. Ringkot di ingoton ia tujuanta ima asa angka jolma i dapot manjalo lumbalumba ni Tuhan i. Dasar-dasarna on tung mansai torang do dijaha uju parenta na nilehon ni Debata (Allah) tu si Musa dohot si Harun, songon dia dalam mandonoki dohot paingothon si Parao i.

Ai ise do na ullehetan hatahatana sian angka jolma na manjuojuo jolma i ro tu Debata (Allah) mangulahon na dengan huhut mandok, "Sasintongna dohot ahu raphon angka jolma na pasahathon diri? Hadengganon dohot hajahaton ndada dos i. padao ma hajahaton i sa-denggandengganna, Tompu ibana, mangonai no dohot dirina adong parsalisan, gabe jadi songon sahalak paralealeon. Ndada na manjalo pasupasu alai holan na benget marroha do; ndada na manjalo pasupasu i alai holan na bahat mambuat bagian tu hadengganon i.

(41:34—36)

Jou ma tu adopan dalan ni Tuhanmu dohot habijaksanaon dohot poda na dengan, huhut masileanan hata tu nasida dohot dalan na lehjet. Sasintongna Tuhanmu lobi umboto ise naung liliu sian dalan-Nya; Ibana muse do umboto ise naung mandapot Sipatudu

وَمَنْ أَخْسَنَ قُلْوَادِمَنْ هَكَارَلِ اللَّهُوْ عَوْلَ
شَكِيلْخَادِيْلَ لَتَرِيْنِ مِنْ الْمُشْلُوبِينَ
وَكَا تَسْتَوِيْ الْعَسْتَهُ وَلَا السَّتِيْهُ، إِذْ كَهْ
بِالْيَقِيْنِ هِيَ أَخْسَنُ قَلْدَا الْزَّوْيِيْنِ بَيْنَكَ وَ
بَيْنَكَهُ عَدَادَهُ هَكَاهُ دَمَيْتَ حَوْيِهِمْكَهُ
وَمَا يَلْقَيْهَا رَأَيْهُ الْزَّوْيِيْنِ صَبَرْدَا، وَمَا
يَلْقَيْهَا رَأَيْهُ ذَهَبَهُ حَفَيْهُمْ
لَحْمَةَ التَّجْدِيدَةِ ٢٦٠٣٤ :

أَذْعُ رَالِ سِيْنِيلِ رَهْلَكِ بِالْجِعْكَمَهُ وَ
الْتَّزِوْنَقَهُ الْكَسْنَهُ وَجَادِلَهُ بِالْيَقِيْنِ هِيَ
أَخْسَنُهُ، إِنَّ رَهْلَكَ هُوَ أَخْلَمُ بِمَنْ فَلَّ
عَنْ سِيْنِيلِهِ وَهُوَ أَغْلَمُ بِالْمُمْتَوْيِنَ
○

i. Molo hamu mamutushon naeng manguhum angka jolma na marsala, jadi uhumi ma nasida dos tu hasalaan na dibahenna tu hamu; alai molo mar-pamuati do rohamu, sasintongna apala i do na undenggan tu angka jolma na marpamuati roha. He Panurirang, benget ma ho, dohot sasintongna habengetonmu i boi ala pangurupion ni Debata (Allah) do i. Unang ma ho gabe marsak siala nasida jala unang ma lungun roham siala ni tahitahi nasida i. Sasintongna Debata (Allah) rap angka jolma na martakwa dohot angka jolma na mangulahon habijaksanaon.

(16:126—129)

Molo adong sahalak sian tongatonga ni halak sipelebegu i mangido parlindungan tu ho, lindungi ma ibana, asa dapot begeonna angka hata ni Debata (Allah) i; dung i boan ma ibana tu inganan na aman tu ibana. Na sisongon i ala nasida sada houm na so mananda hahomion.

(9:6)

Angka jolma na mandoai tuhan-tuhan pargappap i, ai ndang manombai alai mulak tu Debata (Allah) — barita na uli do i tu nasida. Dung i lehon ma barita na uli tu angka naposong-Ku. Angka na manangihon Hatanami, dung i mangi-huthon angka na undengganan sian i. Nasida i ido naung dipatimbo Debata (Allah) nasida, jala nasida i do angka jolma naung dilehon pangantusan.

(39:18, 19)

وَلَمَّا قَبَطُهُمْ فَعَاقَبُوهُمْ مَا عَوْقَبْتُمْ
بِهِ وَلَمَّا سَبَرْتُهُمْ خَيْرًا لِّلصَّابِرِينَ
وَاضْبَرْتُهُمْ مَا كَسَبُوكُمْ لَا يَالِلَّهِ وَلَا تَخْرَنَ
عَلَيْهِمْ هُدًى لَا تَكُونُ فِي ضَيْقٍ وَمَا يَمْكُرُونَ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْأَذِينَ أَتَقْوَا وَلَا إِنَّهُمْ
مُّحْسِنُونَ

النحل: ١٢٦ - ١٢٩

وَلَمَّا أَحَدَ قَوْمَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَأَ رَكَ
فَأَجَزَهُ حَتَّى يَسْتَهِنَ حَلْمَ الْمُؤْمِنَةِ أَبْلَغَهُ
سَاءَمَنَةَ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَغْلِمُونَ
التوبه: ٦٠

وَالَّذِينَ اخْتَبَرُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَغْبُرُوهَا
وَأَنَّهَا بُوَآرَى الْمُؤْمِنُهُمُ الْبُشْرَى، قَبَّشَ زِعْبَدَهُ
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَسْمَعُونَ آخْسَهَهُ
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَذَهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُنَّ
أُولُو الْأَبْيَابِ

الزمر: ١٨ - ١٩

(11) ADATADAT (JTIKET)

Al Quran mangajarhon taringot songon dia manjalo/mangantusi parngoluon on. Al Quran ndang mangajarhon laho manolakna manang surut manerah. Diparngoluon di Islam diorai do maninggalhon kewajiban mangalului arta dunia on cara parngoluon mamaksahon diri sai dibagasan hasusaan/penderitaan dilarang do diagama Islam. Mandalani parngoluon na sintong huhut manjaga keseimbangan tu potensi na adong dibagasan ni diri ni manisia dohot haloomoon ni Tuhan ima sada aturan diparngoluon. Dibagasan konsep na mansai bidang on ma Al Quran mam bahan parentaparenta songon dia hita mamalihara huhut manjaga adatadat (ahlak) dohot hatimboon ni partondionta. Na manjadi tujuan/sitiopon ima hagunaon/faedah dohot kordinasi dipembangunan saluhut aspek.

Sasintongna, saluhut angka jolma na porsea i marhahaanggi do. Jadi bahan ma pardamean ditongatonga ni hahaanggimu, dung i martakwa ma tu Debata (Allah), asa dapot hamu Asiasi. Hamu angka jolma na porsea! Unang ma sada houm mangarehei houm na asing, autheha nasida (na direhei) udengganan sian nasida (ma mange-rehei), unang ma deba sian angka boruboru i mamparengkeli angka boruboru na asing i, autbeha udenggana nasida i sian nasida. Unang ma hamu paro-aroahan hoummu, songon i muse unang manjou dohot panggoaran na roa. Saroaroa ni panggoaran ima dijou dohot goar na roa dung porsea; jala manang ise na so ra muba, nasida do na marsala. Hamu angka jolma na porsea!

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ لِخَوَّةٍ قَاتِلُحُوا بَئْنَ
أَخْرَيْنَكُهُمْ أَتَقْوَى اللَّهَ لَعْلَكُهُمْ تُزَحْمُونَ ۝
يَنَّا إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ
عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَسَاءٌ قِنْ
نِسَاءٌ عَنِّي أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ ۚ وَلَا
تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ ۚ كَمَا كُنْتُمْ بِذَارَانَكُمْ لَقَابٍ
إِنَّمَا الْأَنْسُمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ أَنْلَمَكُمْ ۖ وَمَنْ
لَهُ تَبْشِيبٌ فَأُولَئِكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝
يَنَّا إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنَبُوا كُثُرًا مِنْ

Daohon ma surasura ni roha, alana deba sian surasura i gabe tu pardosaan. Unang hamu ma si amatamat, unang ma muse hamu manghatahon hasalaan ni na deba tu na deba. Lomo do roham mangallang sian tongatongamu daging ni hahaanggi na mate? Nunga tontu magigi do hamu. Oloi ma Debata (Allah). Sasintongna, Debata (Allah) marulakulak manjalo hamumuba, Naulibasa. (49:11–13)

الظَّنِّ إِنَّهُ بِخَصْ الظَّنِّ لَا شَهَدَ لَأَنْجَسْتَهُ وَلَا
يَخْتَبَ بَعْضُكُنْ بَعْضًا، أَيْحَبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَأْخُلَّ لَحْمَ أَجِيبِ مَيْتَانَكُرْهَمَّةَ، دَائِشُوا
إِنَّهُ إِنَّهُ تَوَابُ زَيْنُمَّ
الحجرات : ١١ - ١٣

Marsomba ma tu adopan ni Debata (Allah), jala unang behen marangkup dohot Ibana manang aha pe pasangap ma natorsamu, dohot angka sisolhot, dohot dakdanak na so marama dohot na pogos, hombar balok sabutuha dohot hombar balok na so sabutuha, dohot angka tondong, dohot jolma na dipardalanan, dohot naposom. Sasintongna, Debata (Allah) ndang marlomo ni roha tu si paburnang diri dohot pamburas. Angka jolma na holit huhut manjujui jolma na asing i asa holit, disuguthon angka naung ni lehon ni Debata (Allah) tu nasida basabasa-Na. Nunga huparade Hami tu angka jolma na so porsea i haripuron na lea. Angka jolma na mambalanjohon arta ugasanna asa diberengbereng jolma i, jadi nasida ndang manghaporseai Debata (Allah), songon i muse tu ari na ro i. Ise na mambahen sibolis donganna, ala mansai jahat do sibolis bahanon dongan. (4:37–39)

وَ اغْبَدُوا إِنَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا يَهُ شَيْئًا وَ
يَا نَوْالَهَنِينِ إِخْسَانًا وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّيِّئِنَ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانَكُمْ رَأَى إِنَّهُ لَا يَحْبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُوزَاهُ
يَا لَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِإِنْجَافِ
وَيَكْثُمُونَ مَا أَنْتُمْ إِنَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَغْنَيْنَا
بِالْكُفَّارِينَ عَدَّاً مُهِينًا ○
وَالْأَذْيَنَ يَنْفُقُونَ أَمْوَالَهُمْ رَثَاءَ النَّاسِ وَلَا
يُؤْمِنُونَ بِالشَّوْلَ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنْ
الشَّيْطَنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينَانَا
النَّادَ : ٢٧ - ٢٩

Sasintongna Debata (Allah) manuru pajongjonghon patik i, mambahen kabajikan tu jolma na asing, mangalehon dos tu dongan sabutuha; jala mangorai parniulaon na rossam, dohot pangose, dohot pemberontakan. Ibana mangalehon dihamu poda, asa gabe parsiajaran i dihamu. Dung i gok i parpadanan tu adopan ni Debata (Allah), ditingki hamu naung hea mambahen sada parpadanan, unang ma ose hamu panolonanmu naung dipaojak, ala naung dijadihon hamu Debata (Allah) songon jaminanmu. Sasintongna Debata (Allah) mamboto angka na ni ulahonmuna. Jala unang ma hamu songon boruboru, digotapi bonangna gabe marputusan, naung piniunna dohot gogona, gabe mambahen tolontolom tu pandahoan ditongatongamu, dibagasan biar autbeha sada houm naung gabe lobi gogo sian houm na asing i. Sasintongna, Debata (Allah) mangunjuni hamu dohot na songon i ditingki ari kiamat Ibana naeng mambahen patar tu adopanmu angka aha najolo diparsalisihon disi.

(16:91—93)

Hamu angka jolma na porsea! Gabe jolma siojakhon hasintongan ma hamu, jala gabe saksi ma hamu dijolo ni Debata (Allah), lan pe maradophon dirim sandiri manang amangmu dohot inangmu dohot sisolhotmu. Biar pe tu halak na mora manang na pogos, ala Debata (Allah) lobi mamparateatehon duansa sian padu hamu. Molo songon i unang ma ihuthon hamu hahisapon ni

رَأَتِ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۝ يَعِظُكُمْ لَعْنَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝
وَآذُفُوا يَعْمَدُ الشَّوَّادُ أَهْذَمْتُهُ ۝
تَثْقِضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ۝ وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ حَفْيَلًا ۝ رَأَتِ اللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝
وَلَا تَكُونُوا كَاذِبِينَ تَقْصِتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ
قُوَّةِ آنَّكُمْ شَاهِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا
بَيْتَنَكُمْ أَنْ تَكُونُ أُمَّةً هِيَ أَزْبَى مِنْ أَمَّةٍ
إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عِبَادُهُ ۝ وَلَيَسْتَقْرَبَنَّ لَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ ۝

النحل : ٩٣ - ٩١

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّا مِنْ
يَا لِفَطِطْ شَهَادَةَ يُلْوَى لَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ ۝ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا كَذَلِكَ تَقْتِيمُ الْمُؤْمِنِ

daging, asa dapot hamu marparange haadilon. Dung i molo ditabunihon manang dipasiding hasaksion i, tangkas ma botoramu sasintongna Debata (Allah) i Siboto Saluhut angka na ni ulahonmuna.

(4:136)

آنَ تَعْدِلُوا، وَلَنْ يَلْعُمُوا أَوْ تُعَرِّضُوا فَوَّا اللَّهُ
كَانَ يَسْأَلُهُمْ مَنْ خَيْرًا

السَّادَةُ : ١٣٦

Ndang dihalomohon Debata (Allah) angka usapusap na rossam na digorahan dohot tarbukka, alai boi molo dihansiti; dung i adong do Debata (Allah) Namambege, Siboto Saluhut. Molo hamu manghatindanghon hadengganon manang manabonihon i, manang dipasesa hajahaton ni sahalak jolma, dung i botoma sasintongna ia Debata (Allah) Sisesa Bolon, Parhuaso Bolon.

(4:149, 150)

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَنَّمَ يَا سَوْءَةَ مِنَ
الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَ كَانَ اللَّهُ
سَوْيَّدًا عَلَيْهِما
إِنْ تَبْدُوا حَيْرًا أَوْ مُخْفِفَةً أَوْ تَخْفُوا عَنْ
سَوْءَةَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا أَوْ يُرِيكُ
السَّادَةُ : ١٤٩ - ١٥٠

He angka jolma naporsea! ingkon hot do pandirianmu ala ni Debata, asa gabe saksi na adil; unang ma ala ni parmu-suon ni sada houm mangkorhon hamu manimbil sian haadilon. Mangulahan adil, i ma lobi donok tu takwa. Jadi martakwa ma tu Debata (Allah). Sasintongna Debata (Allah) Siboto Bolon angka na niulahonmu. Naung marpadan hian do Debata (Allah) tu angka jolma na porsea dohot tu namangulahan na dengan i, dipalua sian pardosaon dohot dapot sahala na balga. Dung i adong pe angka jolma na so porsea i dohot na pasoadahon ayat ayatNami. di api narokko do inganan nasida. (5:9—11)

لَيَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَوْنُوا قَوْا مِنْ بَنِ
شَهَدَ أَيْمَانَهُمْ لَا يَغْرِيَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ إِلَّا تَخُولُوا مَلَغِهِ لَوْ اسْهُوَ أَفَرَبِي لِتَلْتَقِيَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَيْزِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَوْلُوا الصِّلْحَتِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ أَجْرٌ عَظِيمٌ
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا يَا نَيْنَا وَ لَيْكَ
أَضْحِبُ الْجَحِيْمَ○

السَّادَةُ : ١١ - ٩

Asa unang ma pusa hamu dakdanakmu ala ni biar tu hapogoson. Hami do na mangalehon razoki tu nasida dohot tu hamu. Sasintongna mambunu nasida i sada dosa na mansai balga. Jala unang ma hamu mandonoki parbabijalangan, sasintongna angka si songon i mansai hodar dohot sada dalan na jahat. Unang ma hamu mamunu naung nioraan ni Debata (Allah), alai boi molo dalan. Manang ise dibunu dohot pangaeon, sasintongna nunga Hulehon Hami dalan tu na mangkasuhuthon na dibunu i laho mambalos, alai unang ma hatar-laluan mangalewati batas naung dibahen di pambunuhan; alana dibagassanna ibana digogohon angka patik i. Dung i unang ma donoki hamu arta ni dakdanak na so marama i, alai holan dohot dalan na dengan, ditingki nunga magodang ibana, dung i gok i ma janji i, sesintongna taringot tu janji ingkon disungkun. Toho ma bahan suhatan i molo manuhat hamu, timbang ma dohot timbangan na sintong; na si songon i diujungna ullehetan jala lobi tarpiji. ^Unang ho mengihuthon aha na masa i ho sandiri ndang marbinoto tu si. Sasintongna pinggol dohot mata dohot roha — tu sude i ingkon disungkun. Unang ma ho mardalan di tano on paburnang diri ala sasintongna ndang boi ho mambola portibion jala ndang boi jangkitonmu dolok-dolok na timbo i. Harossamon i sude tung mansai di hasogohon tu pamerengan ni Tuhanmu.

(17:32—39)

وَلَا تَقْتُلُوا أَذْلَادَ كُفَّارٍ شَيْئَةً إِنَّمَا قَاتَلُوكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوكُمْ خَطَاةٌ
أَرَى كُفَّارُكُمْ وَلَا يَأْكُلُونَ إِنَّمَا قَاتَلَكُمُ الْكُفَّارُ أَنَّهُمْ كَانُوكُمْ حَسِيرًا
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفَرَ إِنَّهُمْ كَانُوكُمْ فَاجِشَةً وَسَاءَ
سِيِّلَانٌ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفَرَ إِنَّمَا قَاتَلَكُمُ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْكُمْ
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لَوْلَاهُ سُلْطَانًا فَلَا
يُشَرِّفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُمْ كَانُوكُمْ مَثْصُورًا
وَلَا تَقْتُلُوا مَالًا إِنَّمَا قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْكُمْ هِيَ
آخْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشْدَهُمْ وَآذْفُونَ عَلَيْهِمْ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُوعًا
وَآذْفُونَ الْحَيْلَ رَدَّاً إِنْ كُنْتُمْ وَزَنُونَا بِالْقُسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ مُحْلِكَ حَيْرَةٍ آخْسَنُ تَأْوِيلًا
وَلَا تَقْتُلُ مَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَةَ
الْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُوْيَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُوعًا
وَلَا تَعْنِشُ فِي الْأَرْضِ مَرَحَّاً إِنَّكَ لَنْ تَعْنِشِ
الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجَهَنَّمَ طُولًا
كُلُّ ذِلْكَ كَمَا سَيِّئَهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا
بَنَى اسْرَادِيل : ٢٢-٣٩

(12) PRINSIP POKOK DIBAGASAN SISTEM PEREKONOMIAN

Konsep pokok perekonomian di agama Islam ima Tuhan i do nampunasa na sa na adong i. Milik na resmi ni sasahalak, songon, hak laho mamiliki, hak manggunahon, hak manggadis arta hamoraon — diakui huhut dilindungi di agama Islam. Allai saluhut kepunyaan (hak milik), diarahkan tu obligasi moral, saluhut lapisan masyarakat adong hak bagian disude arta hamoraon i. Deba sian obligasi on dilehon dibagasan legal didalanhon dohot efektiv marhitehon sanksisanksi resmi. Alai unggodangan do dapot dijalo marhitehon-usaha sukarela dohot niat laho mandapot ahlek dohot hadengganon ni partondion tu angka na mamorluhon.

Dung i ingot ma ditingki Hami marhata tu angka surusuruan i. "Unduk hamu tu si Adam", gabe sude ma nasida unduk. Alai sibolis i ndang olo ibana unduk. Dung i marhata ma Hami muse, "He Adam, sasintongna on ima musu tu ho, songon i nang tu dongan saripem i; jadi unang ma sahat ibana paruarhon hamu nadua sian surgo, unang nian manaon na bernit hamu. "Sasintong na nunga ditontuhan tu ho, ia ho ndang manaon haraparon di si, dung i muse ndang gabe marsaimara ho. 'Ndang mauas ho di si jala ndang di doit mata ni ari.
(20:117—120)

Unang ma hamu mandaho arta ugasan ni donganmu ditongatongamu, jala unang ma hamu manuap angka petugas ni pamarenta i asa adong dalanmu mambuat deba sian arta ni jolma i na so didalanna, hape hamu umbotosa.

(2:189)

وَإِذْ قُلْنَا لِمَآتِكَةَ اسْجُدْ وَإِذْ أَدْمَرْ فَسَجَدْ وَإِذْ
رَبِّلَيْسَ ، آبِي ○
نَقْلَنَا يَا دَمَرَّ هَذَا عَدُولَكَ وَلِزَرْ جَكَ
فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ○
إِنَّ لَكَ الْأَنْتِيْوَعَ فِيهَا وَلَا تَنْزَهَى ○
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ○
طَهٌ : ١٢٠ - ١١٧

وَلَا تَأْكُلُوهُ أَمْوَالَكُمْ بَيْتَهُمْ يَا لَبَّا طَلِ وَ
ئَذْ نُؤْبِهَارَ الْحُكَمَاءِ يَتَأْكُلُوهُ فَرِيقًا قَنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ يَا لِلْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○
البقرة : ١٨٩

He angka jolma na porsea! unang ma hamu masibuatan angka artaartamu naso didalanna, alai molo arta partigagaon dohot dos ni rohamu. Unang ma hamu maningkot. Sasintongna Debata (Allah) parulibasa Bolon. (4:30)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْخُلُوا آمَنَّا كُمْ
بِئْتُكُمْ بِالْأَيْمَانِ لَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَرٌ وَلَا تَقْتُلُو أَنفُسَكُمْ
لَا إِلَهَ كَانَ بِكُمْ رَجِিমًا

النَّاهِرَةُ : ٣٠

(13) JIHAD – USAHA/PARNIULAON NA TIMBO DJIDALAN NI DEBATA (ALLAH)

Jihad marlapatan : Marporang mangalo hagogoon ni na so dihalomohon manang dibenci. Tolu ragamma : 1. Tu musu na binoto/patar. 2. Dohot Setan. 3. Dohot diriniba sandiri.

Al Quran mangajarhon molo tarjadi parporangan, na masa i ingkon diperetonghon asa holan dapot mangakibatkan harugian hosa dohot arta saotikotikna. Dungi diusahahan sadapotdapotna maradian parporangan i sahatophatopna.

Nunga dipaloas mambahan paraloan tu angka na mambahan paraloan, ala nasida nunga dihansiti gabe mangae dohot sasintongna Debata (Allah) marhuaso manolong nasida. Angka jolma naung dipabali sian bagas nasida na so adong alana, holan siala nasida mandok, "Tuhannami ima Debata (Allah)." Aut unang Debata (Allah) ndang mangondihon deba jolma i dohot marhitehi-tehan deba sian na asing i, tontu ma nunga dirumpakhon biara-biara ni Nasrani, gerejagereja, bagasbagas partiangan ni Jahudi dohot Masjidmasjid, dibagsna i gok dihatahon Goar ni Debata (Allah). Sasintongna Debata (Allah) pasti manolong angka jolma na manolong Ibana. Sasintongna Debata (Allah) Namarhuaso Bolon, Pargogo i.

(22:40, 41)

إِنَّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ يَا تَمَّ طُلِمُوا هُدَىٰ
اللَّهُ عَلِ نَصْرٍ وَمَلَقْوِيَةٌ
إِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
لَا كَمَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وَلَنَوْلَادَنَّهُ
إِنَّهُ النَّاسُ بِخَصْفُهُمْ بِتَغْيِيرِ لَهُمْ مَثَلُ
صَوَّامِهِمْ وَبَيْتِهِمْ وَصَلَوَاتُهُمْ وَمَسْجِدُهُمْ كَرِ
فِيهِمَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ هُدَىٰ اللَّهُ لَقَوْيٌ عَزِيزٌ ○
الحج : ٤٠ - ٤١

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي
الْأَيْنِ وَلَمْ يُغْرِجُوكُمْ قَنْ دِيَارِكُمْ أَنْ

ugamomu i jala ndang dipabali hamu sian negerimu; sasintongna Debata (Allah) manghaholongi angka jolma na mambahen adil. Debata (Allah) mangurai hamu mardongan holan dohot nasida na mamorangi hamu ala ni ugamomu naung pabalihon hamu sian negerimu dohot naung mangurupi jolma na asing pabalihon hamu; manang ise maraleale dohot nasida i do jolma na mangae (60:9, 10)

سَبَّوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ
إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الظَّنِينَ قَاتِلُوكُمْ فِي
الْأَوَّلِينَ وَآخِرُ جُوَنِكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُ ذَاعِنِ
الْخَرَاجِ كُلُّ أَنْ تَوَلَّهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ^٥

١٠ - ٩

He hamu angka jolma na porsea! Olo do Ahu patuduhon tu hamu sada partigatigaon, na naeng paluahon harnusian bura na siak. Ingkon mahaporsean ma hamu tu Debata (Allah) dohot tu Panurirangpanurirang-Na, dungi hamu marjihad didalan ni Debata (Allah) dohot arta ugasamu dohot dirim. Nas i songon i undenggan dihamu, aut sura hamu mangantusi. (61:11, 12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّ كُفَّارًا عَلَى تِبَاعَةِ
 شَجَرِكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيَّنِيمْ
 شَوْمُونُ يَا مَلِئُو وَرَسُولِهِ وَشَجَارَاهُدُونَ فِي
 سَيِّنِيلِ اسْتُو بِاً مَوَالِكُمْ وَأَنْفِسُكُمْ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ
 لَكُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

الصف : ١٢ - ١١

Manginona tu angka jolma na marjuang asa pajumpang dohot Hami, sasintong-na naeng lehononNami do sipatudu tu nasida tu*dalanNami. Dohot sasintongna Debata (Allah) rap dohot angka jolma na mangulahan na tigor. (29:70)

**وَالَّذِينَ جَاهُدُوا فِيهَا لَنَهْرِيَّتُهُمْ
سُبْلَنَا، وَإِنَّ اللَّهَ لَكَمْ الْمُخْسِنِينَ**

العنتبوت : ٧٠

Angka jolma na porsea dohot munsat
dohot marjihad tu dalan ni Debata
(Allah) dohot arta hosana nang dirina
tung mansai timbo do derajat ni i dilambug
ni Debata (Allah). Dung i ima angka jolma na naeng mandapot
hasonangan. (9:20)

اللَّذِينَ أَمْنَوْا هَا جَرْدًا وَجَاهُمْ دُوَافِي
سَيِّئِ الْتَّوْبَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، أَعْظَمُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْقَابِرُونَ

التبعة : ٢٠

لتوة : ٣٠

Sasintongna nunga dituhor Debata (Allah) sian angka jolma na porsea i diri dohot arta ugasana nasida dohot

perjanjian, dilehon tu nasida surgo, ala marporang nasida di dalan ni Debata (Allah) gabe mambunu ma nasida manang dibunu; ima janji na pasti sian Ibana songon na tarsurat di Taurat dohot di Injil dohot dibagasan Qur'an muse. Dung i ise ma na mangga dis janjina ianggo so Debata (Allah)? Ala ni i oh angka jolma na porsea! marlas ni roha ma hamu siala ni manggadis manuhor naung binahenmuna i, ima hamonangan na balga. (9:111)

وَآمِنُوا إِلَهُمْ بِيَأْنَتْ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَ
عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْأَنْجِيلِ وَ
الْقُرْآنِ وَمَنْ آتَى فِي يَحْمَدِهِ مِنَ النَّاسِ
فَإِنَّهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ هُمُ الظَّاهِرُونَ
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

التوبه : ١٠٣

Angka jolma na porsea hundulhundul di jabu, asing ni jolma na marsahit-sahit, ndada dos tu nasida na marporang didalan ni Debata (Allah) dohot arta ugasanna dohot dirina. Dilobihon Debata (Allah) do derajat ni angka jolma na marjuang dohot arta ugasan dohot diri nasida sian angka jolma na tinggal hundulhundul. Ganupganup be nunga dijanjihon Debata (Allah) hadengganon. Jadi Debata (Allah) palobihon angka jolma na berjihad sian pado na tinggal hundulhundul, dohot parjambaran na mansai balga. (4:96)

لَا يَشْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ
أُولَئِكَ الظَّاهِرُ وَالْمُكَبِّرُ هُمُ الْمُهُنَّدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
إِيمَانُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجْهُمُونَ
إِيمَانُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ عَلَى الْغَيْرِ مِنَ دَرَجَةَ وَ
كُلُّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَفَضَلَّ اللَّهُ
الْمُجْهُمُونَ عَلَى الْغَيْرِ مِنَ أَجْرًا عَظِيمًا

التوبه : ٩٦

(14) HADENGGANON DOHOT TANDATANDA NI HALAK MUSLIM

Al Quran manoranghon tung mansai porlu situtu marhaporseaon tu Debata (Allah) dohot mangtidanghon HaadonganNa. Al Quran menekankan ia Debata (Allah) totop do manongoshon HatahataNa ima na didok Wahyu. Astuanna Tuhan i ndang be mambahen tandatanda dohot Sifat-sifatNa i marhitehitehon angka Panurirang dohot sian angka sisean nasida; jadi haporseaon na gomos tu haadongan ni Tuhan i, gabe rumpak ma haporseaon nasida. Jadi on ingkon adong; saleleng manisia sai adong ditanoon, wahyu ingkon torus ditongos tu nanihalomohonNa.

Angka naposo na denggan na sian Tuhan Naulibasa ima nasida namardalan di ginjang ni tanoon na patoruhon dirina; ditingki disapa angka jolma na jungkat roha i nasida, dibatahon nasida do hata hadameon. Dohot nasida na manggunahon borngin i manungkap dohot jongjong diadopan ni Tuhan nasida. Dohot nasida na manghatahon, "Ola Tuhannami, padao ma sian hami sitaonon api narokko jahanam, ala sitaononna i haberniton na mansai leleng." "Sasintongna narokko i saroaroa ni inganan paradianan dohot saroaroa ni inganan na totop. Dohot nasida, na ditingki mambalan-johon arta 'ndang boros jala ndang holit muse, alai dibuat do dalan partongan ditongatonga ni duansa i.

(25:64–68)

Dohot angka jolma na so manomba tuhan na asing dipados tu Debata (Allah), ndang mambunu jiwa na ni

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَفْشُونَ عَلَىٰ
 أَنَّكَرُوهُنَا وَلَا إِذَا خَاطَبَنَا حَاجِهُنَّ
 قَالُوا سَلَامًا
 وَالَّذِينَ يَسْتَوِيُونَ لِرَبِّيهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا
 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اضْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
 جَهَنَّمَ هَرَثَ عَذَابَهَا كَانَ شَرَابًا
 إِنَّهَا سَاءَتْ مُشَتَّرَّاً وَمَقَامًا
 وَالَّذِينَ لَذَا أَنْفَقُوا أَمْلَهُ يُشْرِفُونَ وَلَمْ
 يَشْتُرُوا وَهَرَثَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اسْتِغْاثَةِ الْأَخْرَجِ وَلَا

orasan ni Debata (Allah), alai molo didalanna, ndang mangalangkup, jadi manang ise mangulahon si songon i, ibana naeng manjumpai uhuman tu dosadosana i; Naeng lipat gandaon do sitaononna diari kiamat, jala ibana naeng tinggal dibagasanna marlea. Alai nasida na manguba roha gabe porsea dohot mangulahon na denggan, siala manginona tu angka jolma na sisongon i Debata (Allah) naeng manguba haja-hatonhajahatonasida gabe tu hedeng-ganohadengganon; ala Debata (Allah) Sipangampun Bolon, Naulibasa. Dohot manang ise na manguba roha dohot mangulahon na denggan, sasintongna ibana mulak tu Debata dohot haubaon na sasintongna; Dohot nasida na so alo gabe saksi palsu, molo pajumpang nasida dohot jolma na mangulahon na so marguna, dilaosi nasida sambing do i laho manjaga hasangaponnasida. Dohot angka jolma na, ditingki nasida dipai-ngothon siala ni Tandatanda ni Tuhan-nasida, ndang naeng terlombang tu bagasanna songon angka jolma na nengel dohot pitung, Dohot angka jolma na manghathon, "Olo Tuhanngami, basabasahon ma tu hamu asa tungganiboru-nami dohot ianakkonnami gabe sipalambok matannami, jala bahan ma hamim imam (pemimpin) tu angka jolma na martakwa." Angka jolma na sisongon i do na naeng diparade bilikbilik hasangapon di surgo, ala nasida benget, jala nasida naeng dijalo dibagasan i dohot panghorinan dohot tangiang horashoras. Nasida naeng tinggal sale-langan dibagasan. Ima inganan naundenggan paradianan dohot inganan na totop. Hatahon ma tu angka jolma na so porsea i, "Tuhaniku ndang manangihon tangiangmu tu Ibana. Alai

يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَيْهَا أَعْطَى وَ
لَا يَرْثُنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْكَيْلَقْ أَشْكَمَاً
يُضَعَّفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ
فِيهِ مُمَّا تَأْمَلُ
إِنَّمَا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا
فَأُولَئِكَ مُبَوْلُ اللَّهُ سَيَارَتِمَ حَسَنَتِهِ وَ
كَانَ اللَّهُ عَفْوًا رَّحِيمًا
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ حَسَارِيَا فَأَنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ
مُمَّا تَأْمَلُ
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الرُّؤْزَ وَلَذَا مَرْزُوا بِاللَّغْوِ
مَرْزُوا بِكِرَاجَمَا
وَالَّذِينَ لَادُدُرُوا بِأَيْتَ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا
عَلَيْهِمَا صُمَّاً عَمَّيَنَا
وَالَّذِينَ يَقْوُلُونَ رَبَّنَا حَبَّ لَنَا مِنْ آذَادِجَنَا
ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ أَجْعَلَنَا لِلْمُمْتَقِنِ
إِمَامَا
أُولَئِكَ يُبَرِّزُونَ الْغُرْفَةَ يَمَا صَبَرُوا وَيَلْقَوْنَ
فِيهِمَا تَجْيِيَةً وَ سَلَماً
خَلِدُونَ فِيهِمَا حَسَنَتِ مُشَقَّرَّاً مُقَاماً
فَلَمْ يَأْتِهِمْ بِمُكْدُرَّيْتَنِ لَوْ لَدُعَاؤُكُفَّهُ فَقَدَ
كَذَّبَتْهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِيَزَاماً

الفرت: ٦٩ - ٧٠

ala hamu nunga margadabus tu tona-Na i, uhum-Na ingkon torus lohot tu hamu.”
(25:69—78)

Dohot goar ni Debata (Allah) Parasi-roha Naulibasa. Tung marhasil do angka jolma na porsea i, Na marsititu di tingki martangiang. Jala nasida na padoohon diri sian angka na so marguna Ringgas do nasida manggarar zakat. Dohot na mangarmoti haiason ni hailaaonnasida (kemaluannya) Alai tu angka dongan ripenasida manang na adong ditangan siamunnasida dung i sasintongna ndang martihas nasida; Alai manang ise manghalommohon asing sian i, nasida do angka jolma na hatarlaluan. Dohot nasida na magingot tona dohot parpadananparpadanan. Dohot nasida na mangaramoti marsiho hot tangiang (sembahyang) Nasida i do na naeng gabe panean, Ima angka jolma na naeng panean ni surgo fir-daus. Nasida i naeng maringanan totop dibagasanna tu saleleng ni lelengna.
(23:1—12)

Adong pe angka jolma na manghathanon, ”Tuhannami ima Debata (Allah),” gabe togu ma nasida, angka surusuran tuat tu nasida huhut patoguhon nasida, ”Unang ma hamu mabiar, jala unang ma muse marsak, alai marolo-pplop ma siala barita na uli mangonai surgo i naung di janjihon tu hamu. ”Hami do alealemu dibagasan parngoluan dihasiangan dohot muse di ari parpudi i. Dibagasan i dapot do angka na dipasintasintamu dapot do muse angka na pinangidomuna. ”Sada pangradeon sian Tuhan Pangampun Bolon, Naulibasa i.
(41:31—33)

قَدْ أَفْلَحَ اللَّهُمَّ مَنْتَ
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِ خَاشِعُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُفْرِضُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّحْمَةِ قَاوِلُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ حَفَاظُونَ
إِلَّا عَلَى آذِنِ رَبِّهِمْ أَذْتَكْ أَيْمَانَهُ
فَأَتَهُمْ عَيْرًا مَلُومِينَ
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْثِيلِهِمْ وَهُمْ أَعْوَنَ
فَمَنِ ابْتَلَى وَرَآءَ ذِلْكَ نَادَاهُنَّهُمُ الْعَذَّابُ
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْثِيلِهِمْ يَحْفَظُونَ
أَوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
الَّذِينَ يَرْثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
خَلِدُونَ ○

المؤمنون : ١٢ - ٢

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبَّنَا شَرِّمَ
أَشْتَقَّا مُؤْمِنَاتِنَّا عَلَيْهِمُ الْمَلِكَةُ أَلَا
تَخَافُوا لَا تَخَرُّنُوا وَآبَشُرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَمْلِيُّوْ كُمُفِ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَشَاءُونَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ۝
نُرَّلُ أَمْنَ عَفْوِ رَحْمَنِ)

(15) DOS DO HAK NI BAOA DOHOT BORUBORU

Andorang so ro Islam; Boruboru ndang hea mangkilalahon hasonangan songon hak ni manisia; holan agama Islam do agama na mangajarhon parlindungan paojakhon hak ni boruboru, mbohon derajat nasida dos songon hak ni baoa, dibidang partondiong biar pe dibagasan aspek-aspek keagamaan diparngoluon on. Mangalehon kedudukan na indepeden, manjaminq "hakhak ugasan" nasida. Dungi manjadihon hakhak huhut kewajiban nasida i songon sada bagian sian hukum syariat.

Manang ise na mangulahon hedeng-ganon, sian angka tongatonga ni baoa manang boruboru pe laos dibagasan haporseaon di ibana, tontu ma naeng Hami lehon ngolu ibana dibagasan parngoluon na dengan dohot sasintongna Hami naeng pabalgahon tu nasida sahala na dengan sian angka na naung niulahon nasida. (16:98)

Dohot manang ise marparange mangulahon na dengan, angka baoa manang boruboru, dibagasan parhaproseaon, Nasida do na naeng masuk surgo, nasida ndang manaon na hansit biar pe sagelleng ni batu ni korma. (4.125)

Sasintongna angka boa na pasahathon dirina tu Tuhan dohot angka boruboru na pasahathon dirina tu Ibana, dohot angka jolma baoa na porsea dohot angka jolma boruboru, dohot angka jolma baoa na unduk dohot angka

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَنْ ذَكَرٌ آذُنُشِي وَ هُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنَخْيِيْنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ
لَئَجِزِيْنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِاَخْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝

النحل: ۹۸

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الظَّلَاحِتِ مِنْ ذَكَرٍ آذُنُشِي
وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَكَمْ يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ۝

التساء: ۱۳۵

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِتَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَوْنِيْنَ وَالْقَوْنِيْتَ وَالصَّوْقِيْنَ
وَالصَّوْقِيْتَ وَالصَّبِرِيْنَ وَالصَّبِرِيْتَ وَالْخَشِيْعِيْنَ وَ

jalma boruboru na unduk, dohot angka jalma baoa na tigor dohot angka jalma boruboru na tigor, dohot angka jalma baoa na totong dibagasan haposeaon dohot angka jalma boruboru na totong dibagasan haposeaon, angka jalma na patoruhon roha dohot angka jalma baoa na patoruhon roha, angka jalma baoa na marsedekah dohot angka jalma boruboru na marsedekah, angka jalma baoa na marpuaso dohot angka boruboru na marpuaso, angka jalma baoa na manjaga hahormatan dohot habadiaonnasida dohot angka jalma boruboru na manjaga hahormaton dohot habadiaonnasida, angka jalma baoa na jotjot mangingot Debata (Allah) dohot angka jalma boruboru na jotjot mengingit Ibana — Debata (Allah) nungan paradehon dinasida saluhut pangampunan huhut taruli parjambaran na balga i.

(33:36)

وَالْخَشْعَتْ وَالْمُتَصَدِّقَيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَتْ وَ
الصَّارِئِينَ وَالصَّرِئِيْتْ وَالْحَفْظِيْنَ
ثُرْجَمَهُ وَالْحَفْظِيْتْ وَالْدَّايمِيْنَ اللَّهُ
كَثِيرًا وَالْدُّعَيْرَاتْ أَعَذَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ
أَجْرًا عَظِيْمًا

الاحزاب: ٣٦

Manang ise mangulahon hajahaton ndang dibalos i lobi sian na hombar tu na niulahonna, alai manang ise mangulahon na denggan, baoa manang boruboru, sadangkon ibana jalma na porseanasida naeng masuk tu surgo; dibagasan i nasida dilehon razoki ndang dietongetong.

(40:41)

مَنْ عَوَلَ سَيْئَهُ فَلَا يَجِدُهَا وَمَنْ
عَوَلَ صَالِحَاهُ تِنْ ذَكَرَ آذَانِهِ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ تَأْوِيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ
مَذَرَّقُونَ فِيهَا بِخَيْرٍ حَسَابٍ

المؤمن: ٤١

وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ تَلَثَّهُ
مُؤْمِنٌ وَلَا يَعْلُمُ لَهُنَّ آنَ يَكْتُمُنَ مَا حَلَّقَ
اللَّهُ فِي آذَحَامِهِنَّ إِنَّ كُلَّ يَوْمٍ مَّا بِهِ
وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَبَعْدَ لَتَمَّنَ أَحَقُّ يَرَدَّهُنَّ

Angka boruboru na disiranghon, ingkon ditahan nasida ma dirina tolu hali ro bulan (haid), denggan ma diboto nasida ndang denggan nasida mana bunihon naung dipajadi Debata (Allah) dohot tu ari nanaeng ro; jala tungganidolinasida lobi marhak mafongan saripehon nasida mulak ditingki paintehon i ('iddah), molo dihalomohon mar-

dengan muse. Di angka boruboru adong do hak na dos tu kewajiban nasida na patut, alai tu angka baoa adong do sada halobion sian nasida. Debata Sipargogo, Paruhum na Dos. Parsirangon (talak) na si songon i na dibagasan paraturan mardenggan (ruju'), holan dua hali do; dung i boi manahan boruboru i didalan napatut manang paluahon nasida dohot pambahenan na denggan. Ndang tama tu ho mangunsat angka aha naung dilehon tu nasida, kecuali molo duansa mabiar ndang dapot paojakhon batasbatas na dibahen Debata (Allah). Jadi molo hamu — angka jolma na torop na marsangkutan tu nasida na dua — mabiar nasida nadua ndang dapot paojakhon batasbatas na binahen ni Debata (Allah) ndang adong hona dosa nasida na dua tu angka naung nilehon ni laho panobus dirina. Songon i ma batasbatas na ditetaphon Debata (Allah), jala unang ma hamu mangalaosina, manag ise mangalo batasbatas na ditetaphon Debata (Allah), dung i nasida ma angka jolma na mangae.

(2:229, 230)

فِي ذَلِكَ إِنَّ أَدَاءَ الْمُصَالَحَةَ، وَلَمْ يَنْشُرْ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَغْرُورِ فَوَلَّ تَرْجَأَ لَعْنَهُنَّ
دَرَجَةً، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
الظَّلَاقُ مَرَثَنِ، فَامْسَاكُ بِمَغْرُورِ أَوْ
تَسْرِيْخُ بِلَاحِسَابِ، وَلَا يَجِدُ كُنْهَ أَنْ
تَأْخُذُهُ وَأَمْتَأْتِيْشُمُوهُنَّ شَيْئًا لَا أَنْ
يَعْلَمُ قَائِمًا لَا يَقِينًا حَذْهَدَ اسْتُو، فَإِنْ خَفْتُمْ
أَلَا يُنْبَيِّنُكُمْ حَذْهَدَ اسْتُو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
أَنْتُمْ كَثِيرٌ، تَلَكَ حَذْهَدَ اسْتُو فَلَا تَعْتَدُهُمَا،
وَمَنْ يَتَعَدَّ حَذْهَدَ اسْتُو فَأُولَئِكَ هُمْ
الظَّالِمُونَ
الْقُلُومُونَ

(16) DIORAJI MAMBUNGAHON HEPENG

Hata na digunahon natarsurat di Al Quran na adong hapeakanna mangonai "bunga manang anak ni hepeng" ima "riba", riba ndang apala tingkos molo dilapathon tu bunga ni hepeng songon pangantusan ni natorop i. Riba diorai/diharamkan ala marmakssud laho mambuat arta ugasan ni halak tu tangan ni sasahalak. Dibagasan kasus pinjaman na marbunga marmaksud, sipaminjam marmaksud mambuat kauntungan sian hasuliton ni halak.

Angka jolma sianakhon hepeng, ndang boi jongjong alai songon parjong-jong ni na siarsiaran songon na rintik. Ala na si songon i nasida marhata: Adong pe partigatigaon i sarupa do i tu na paanakkon hepeng; boasa dioloi Debata (Allah) partigatigaon mangorai paanakkon hepeng. Ai ingot ma manang na tu ise nunga sahat tu ibana sipaingot ni Tuhanna i, gabe maradian sian pangalaosion i, gabe parlabaan ni ibana mai naung salpu i; sahat tu Debata (Allah) ma putusan ni i. Alai manang ise mangulahi muse manganakkon hepeng i, di api narokko do inganan nasida, di si ma inganan nasida leleng. Pasohoton ni Debata (Allah) paanakkon hepeng jala paragatonna sedekah. Ndang dihalomohon Debata (Allah) na so porsea dohot dokdok dosa. Sasintongna angka jolma na porsea i jala mangulahon hadeng-ganon totop martangiang (sembahyang),

أَلَّذِينَ يَا كُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقْوِمُونَ إِلَّا
كَمَا يَقْوِمُ الظُّرُفُّ الَّتِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ
الْمُتَّقِينَ، ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ قَاتُلُوا رَأْتَمًا أَبْيَهُ
مِثْلَ الرِّبُوا وَأَحَلُّ اللَّهُ أَبْيَهُ وَ حَرَمَ
الرِّبُوا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً فَنِّيَ
فَانْتَهَى فَلَمَّا مَاتَ سَلَفَ، وَأَمْرُرَاهُ إِلَى التَّلْوِهِ
مَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا
خَلِدُونَ ۝

huhut manggarar zakat, tu nasida adong do parjambaran dilambung ni Tuhan-nasida, ndang adong be sihabiaran sita-onon nasida jala muse ndang adong be arsak nasida. He angka jolma na porsea! habiari ma maradophon Debata (Allah) tinggalhon tagirtagir ni anak ni hepeng i, molo sintong do hamu naporsea. Jadi molo ndang diulahan hamu songon i, marjagajaga ma hamu parporanganna sian Debata (Allah) dohot sian panurirangpanurirang-Na i, alai molo maruba hamu sian manganakkon hepeng i, ndang pola sadia harugianmuna, ala dihamu do pangkal ni hepeng i; molo songon i ndang mangae jolma behenonmu, jala hamu pe ndang mangae. Molo nasida marutang ditingki hasompitan, lehon ma tu nasida tingki sahat tu na adong halapangon di nasida. Alai molo dibahen hamu i gabe silehonlehon gabe deng-ganan do i dihamu, molo diantusi hamu do i. Mabiar ma tu arina ditingki naeng mulak hamu tu Debata (Allah), di tingki ganup tondi ditimbang dohot sintong angka naniolahonna, ndang mangae nasida. (2.276—282)

He angka jolma na porsea! unang ma hamu masibuatan angka artaartamu naso didalanna, alai molo arta partigigaon dohot dos ni rohamu. Unang ma hamu maningkot. Sasintongna Debata (Allah) parulibasa Bolon. (4:30)

يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبُوَا وَيُرِيدُ الصَّدَقَةَ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَآتَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ الصَّلْوَةَ وَإِنَّ الْرَّحْمَةَ لِهِمْ أَجْرٌ هُمْ عَنْهَا رَيِّفُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُجُونَ ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوهَا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا وَإِنَّ الْرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝
فَإِنَّمَا تَمْتَعِلُونَ فَإِذَا نُوا يَحْرِبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُكُمْ أَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ ۝ وَلَا تُظْلِمُونَ ۝
وَإِنْ كَانَ ذُو عُشْرَةَ فَنَطِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۝ وَأَنْ تَصَدِّقُوا حِلْلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزَجَّعُونَ فِي شَوَّالِ اللَّهُ ثُمَّ تُؤْتِ كُلُّ نَفِيسٍ مَا كَسَبْتُ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ ۝

بقرة: ٢٧٦ - ٢٨٢

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْخُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِئْسَكُمْ بِالْبَأْطِلِ لَا إِنْ كَوْنَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاجِعٍ قُنْكُمْ ۝ وَلَا تَقْتُلُو أَنْفُسَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُكْمِرُ جِهَنَّمَ ۝ التَّارِدُ ۝

(17) KHABAR GHAIJ/PROPHECIES/WAHYU

Tung mansai godang do ayatayat natarsurat di Al Quran na dijalo di parmultaan na patandahon ragamragam bukti namanokong ajaranajaran ni Al Quran i. Adong do manang piga bagian di Al Quran i manoranghon tu "Wahyu/Khabar Ghaib/Prophecies" hasaksionna nunga gonop. Hagonoponna jotjot dibagasan lapatan literal-na, sipata dibagasan lapatan kiasan, manang dibagasan lapantan duansa. Songon naung dipatorang, Al Quran i do namanganrupahan sada khabar ghaib na balga. Ia hagonoponna marupuhan sada hasaksian na dileanna sian mulai nahinan. Wahyu na parjolo sahali ro, nunga dipabotohon taringot tu zaman parsiajaran (zaman ilmu pengetahuan) na marmula marhitehon pengembangan hagunaon ni pen manang kalam (96: 4-6).

He angka parpungu ni Jin (Sibolis) dohot manisia! Astuanna adong dihamu hagogon laho tolhas tu parbalokan ni saluhut langit dohot tano, laho ma tu balok na i. Alai ndang dapot hamu tolhas molo so dohot hahuasoon. Jadi, sian angka pasupasu ni Tuhanmu i, na dia ma nanaeng gabusanmu? Naeng ditongoshon do tu hamu nadua dila ni api, dohot tombaga naung dilala da-hot api, gabe ndang dapot be hamu nadua manolong dirimu sandiri.

(55:34–36)

Molo dung maputar langit i, Manangihon tu Tuhanna, wajib do i tu ibana — Tingki tanoon dipahornop, Marsampatan haruar sasude na adong dibagasan i, tarbereng gabe rumar, Manangihon tu Tuhanna, wajib do i tu ibana—(84:2–6)

يَمْعِشُ الْجِنَّةُ وَالْأَدْنِيُّ لَمْ يَشْتَفِئْنَهُ أَنْ
تَنْقُذَهُ إِنْ قَاتِلًا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَانْقُذْهُ وَأَهْمَاءً
لَا تَنْقُذُهُنَّ إِلَّا بِسُلْطَنِهِ
فَبِأَيِّ الْأَعْرَافِ كُمَا كُوَّنُونَ
يُزَسِّلُ عَلَيْكُمَا شَوَّاظٌ مِّنْ نَارٍ وَنَحَّاسٌ
فَلَا تَشْتَهِرُنَّ

الرحمن: ٣٤-٣٦

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ ٨
وَأَذْنَثَ لِرَبِّهَا حُقُّقَتْ ٨
وَإِذَا الْأَرْضُ مَسَّتْ ٩
وَأَنْقَذَ مَأْنِيَّهَا وَتَحَلَّتْ ٩
وَأَذْنَثَ لِرَبِّهَا حُقُّقَتْ ٩
الإنشقاق: ٦-٧

Tingki unto betina, bakkaran sampulu bulan, ditinggalhon, (81:5)

وَلَدَ الْمُشَارِعُ طَلَثٌ
النَّكَرِيرٌ ۝

Tingki angka bangsobangso dipapungu, (81:8)

وَلَدَ النُّفُوسُ رُوَجَّثٌ
النَّكَرِيرٌ ۝

Tingki angka bukubuku tarsar, Tingki langit dibahen tarbukka, (81:11, 12)

وَلَدَ الصُّحْفُ تُشَرَّثٌ
النَّكَرِيرٌ ۝
وَلَدَ السَّمَاءُ كُشَطَثٌ
النَّكَرِيرٌ ۝

Tingki tanoon dihaturhon dohot gogo huturna. Tanoon nunga paruarhon sa-sude bobanbobanna. Jadi manisia mar-hata "Aha do na tarjadi di tanoon?" Tingki i tanoon pajojorhon angka bari-tana. Tuhanmu nungan mama-rentahon-na. Diari i angka manisia naeng haruar dibagasan parpunguan sirang asa dapot dipatudu tu nasida pangkorhon ni parangen asida i. Dung i manang ise marparange na denggan lan pe samet-met ni biji sasawi pe, ingkon dapot do i idaonna, Jala manang ise marparange hajahaton sabalga ni biji sasawi pe, ingkon idaonna do i muse. (99:2-9)

إِذَا لُزِّلَتِ الْأَرْضُ نَزَّلَهَا
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَشْقَالَهَا
وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
يَوْمَئِذٍ شَحَّتْ أَخْبَارَهَا
يَا أَنَّ رَبَّكَ أَذْخَلَهَا
يَوْمَئِذٍ يَضْدُدُ النَّاسُ أَشْتَائِهَا لِيَرَوُا
أَعْمَالَهُمْ
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
الرِّزْنَانٌ ۝ ۹-۲

Nasida manungku to ho manginona tu Dolokdolok i. Hatahon ma, Tuhan-hu naeng mangalahonna sahat mata-por gabe marhabangan songon orbuk; "Jadi Ibana naeng maninggalhon gabe tano na hornop na tungil, hornpo; Ndang naeng idaonmu dibagasanna ru-rarura ndang muse nangkokan.

(20:106-108)

وَيَسْتَأْوِنُكَ عَنِ الْجِبَالِ تَقْلُ بِنِسِيفَمَا رَبَّنِ
تَسْفَلٌ
تَبَدَّلْمَعَافَمَا سَفَقَلٌ
لَا تَرَى فِيهِمَا عَوْجَلَ لَا مَسَنَّا^٦
طَلَهٌ ۝ ۱۰۸-۱۰۶

Ditingki haputusan dibahen tu nasida, Hami naeng paruarhon tu nasida se-

وَلَدَ أَوْقَةَ النَّوْلِ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَتَا كَمْمُ

rangga sian tano, na mangalukkai nasa, di siala manisia i ndang marha-porseaon tu Sipatudunami i. (27:83)

دَآتَهُ مِنْ أَهَادِهِ تُعَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا إِيمَانِيَّا لَا يُؤْقِنُونَ ٥

التمل : ٨٣

Ditingki silo pamerengan, Dohot bulan margerhana, di ari i manisia marhata, "Tudiama dirion marlojong?".

(75 8-10) القيمة : ١٠ - ٨

فَلَذَّا بَرَقَ الْبَصَرُ
وَخَسَفَ الْقَمَرُ
وَجُمِعَ الشَّفَعُ وَالْقَمَرُ

(18) NA MARHUBUNGAN DOHOT ALAM

Adong do unique dibagasan Al Quran ima; lan pe nunga marumur 1400 taon ndang adong saotik pe manghatahon taringot tu alam (nature), na dipudian ni ari dapot dibuktihon hasalaonna oleh penelitipeneliti dipudina. Godang do bagianbagian Al Quran na patuduhon panomuan na imbaru ilmu pangatahuan. Dungi dibagian na asing adong do mengisarahkan tu phenomena na mamorluhon penelidikan. Alai adong do bagianbagian na tarpillit laho manggambarhon manang piga implikasi datadata/hatorangan taringot tu alam - adong dibagasan Al Quran.

Dohot angka sian TandatandaNa ima panompaonaNa saluhut langit dohot tano, ditompa saluhut na mangolu na naung diparadak tu duansa. Dung i Ibana marhuaso do papunguhon i sude molo dihalomohon Ibana. (42:30)

وَمِنْ أَيْتَهُ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ
رَفِيعَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ رَاٰءِ اِشَائِرَةٍ
الشَّوَّرِ ۝

الشَّوَّرِ : ۝

Ibana do na manompa hamu sian tondi na sada muse tu hamu adong inganan parsatongkinan dohot inganan tinggal manotop. Sasintongna nunga Hami torangkon Tandatanda tu angka na mangantusi. (6:99)

وَهُوَ الَّذِي آتَنَا حُكْمَ قِنْ تَقْوِيسٍ وَاجْدَةً
فَمُسْتَقِرًّا وَمُسْتَوَدًّا، قَدْ فَصَلَنَا الْأَيْتَ
لِقَوْمٍ يَقْهَمُونَ ۝

الانعام : ۹۹

He manisia! martakwa ma tu Tuhanmu Na manjadihon hamu sian diri na sada dohot sian jenis i muse Ibana mambahan oroanna, gabe gok pomparan sian na duansa gabean anak dohot boru ditano on; jala martakwa ma tu Debata

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نُفُوسٍ وَجَدَهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ

(Allah), na dohot goar-Na hamu masih pangidoan, martakwa muse ma dibagasan urusan tu partondongan. Sasintongna Debata ima parosehon diginjangmuna.

(4:2)

الَّذِي تَسَاءَلَتُونَ يَهُوَ الْأَكْرَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَىٰ كُفْرِ قَبْرَيْهِ ۝

السَّاءَلُ ۲۰

Ibana ma na mambahenmu rupa di-tingki digabegabean, songondia na Ibana halomohon, ndang adong na patut disomba holan Ibana, Nagogo Bolon Sitimbangi na so Hatudosan.

(3.7)

مَوْالِيٌ يُصْوِرُهُ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يَشَاءُ
لَا لِنَفْلَةٍ لَا هُوَ أَعْزَيزُ الْعَكِينِ ۝

آل عمران ۷

Ai ndang ditailihon ho, ia Debata (Allah) manjadihon tano dohot langit on dohot hak? Molo dihalomohon Ibana, boi do Ibana mamusa hamu dung i diganti dohot parngoluon na imbaru.

(14:20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِيقَةِ، إِنَّ يَشَاءُ يُهْبِطُهُ وَإِنَّمَا يُخْلِقُ
جَنِينَ ۝

ابراهيم ۲۰

Diida ho do dolokdolok, na dirippu ho ojak gomos, mangalaos songon laosna ombun — ima karejo ni Debata (Allah) Na naung manjadihon angka na manggulmit martopi. Sasintongna Ibana maboto saluhut na diulahonmu-na.

(27:89)

وَكَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ
تَثْرُمَ السَّحَابِ، صُمُمَ الْوَالَّذِي أَثْقَنَ
كُلَّ شَيْءٍ، إِنَّهُ خَيْرٌ مَا تَفَعَّلُونَ ۝

النمل ۸۹

He manisia, molo dibagasan mardua roha mangonai mulak mangolu muse, alai ingot ma ia Hami toho nunga manompa hamu sian tano, dung i sian saotik igit, dung i sian sampohul mudar dung i sian saotik daging, deba nunga martoppa na deba nari ndang martoppa dope, asa dapot Hami patridahon hahuasoonNami tu hamu. Hami mambahen angka na dihalomohonNami, asa totop dibagasan rahim

يَا يَمَّا النَّاسُ إِنَّ كُلَّ ثُغْرٍ فِي رَبِّهِ مِنَ الْبَغْثِ
فَإِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ دُنْدُنَ شَرَابٍ مُّلَوَّنَ نُظْفَقُهُ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ شُرَّهُ مِنْ مُضْعَفَةٍ مُّخَلَّقَهُ
غَيْرُ مُخَلَّقَهُ لِنَبْتَئِنَ لَكُمْ، وَنُقْرُّ فِي
أَكْرَامٍ وَمَا تَسَاءَلُ إِلَّا آجِيلٌ مُّسَمَّى شَرَّهُ

sahat tu tingki na naung ditontuhon, dungi Hami haruarhon hamu songon posoposo, dung i Hupiaro Hami asa magodang hamu. Ditongatongamu adong do dimatehon songon na somal, deba sian hamu adong na dipaganjang umurna sahat tu namatua paling-palingon, gabe ndang doboto nasida be saotik pe andorang so i adong hian parbinotoan nasida i. Dung i ho mamereng tanoon kering tungil, alai ditingki Hami patuathon aek tu si, gabe mangolu huhut lomak,dohot manubuhon marragamragam suansuan-an uli jala lehet. (22:6)

نَخْرِجُكُمْ طَفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُو أَشُدَّ كُفَّةٍ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ
آذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَغْلِمَ مِنْ يَغُوْ عَلَيْهِ
شَيْئًا، وَتَرَىٰ إِلَّا رَضَ حَامِدَةً فَيَادًا
أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ احْتَرَثَ وَرَبَثَ وَ
أَثْبَثَ مِنْ كُلِّ زُوْجٍ بَهِيجٍ ○

الحج: ٦

Ibana nunga manoppa hoda bagal, halode, asa dapot hamu manungganna, muse songon mual hadengganon, jala Ibana naeng manoppa angka aha na so pamotoanmuna. (16:9)

وَالْغَيْلَ وَالْيَعْلَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكُبُوهَا وَزِينَةٌ
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

التحل: ٩

Namarsahala bolon i, Na ditanganNa adong Harajaon dohot hagogoon tu saluhut na manggulmit; Namambahen hamatean dohot hangoluon, ala Ibana mangunjuni hamu, ise do ditongatongamuna na undenggan parangena; Ibana do nampuna Hagogoon, Sipasesa Bolon i.

Nanambahen pitu tingkat langit i. Ndang adong idaonmu disi na so suman Nabinahen ni Tuhan Na Uli Basa i, ala ni i taili ma muse! Adong do ho mame-reng sada tihas pe? (67: 2-4)

تَبَرَّكَ الَّذِي بَيَّنَ الرُّؤْيَا
كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ
إِلَّا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْتُو كُمَا يُكِمُ
أَخْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ
الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا «مَا تَرَىٰ
فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوِيتٍ، فَانْجُمِ الْبَصَرَ»
هَلْ تَرَىٰ مِنْ قُطُورٍ ○

الملك: ٤-٢

(19) PARSIAJARAN DIBAGASAN AL QURAN LAHO MĀNGIDO/MARTAMJIANG

Martangieng/sembahyang i do sada dalam parhubungan langsung tu Tuhan dohot manisia i. Asiasi dohot holong ni Tuhan do na manarik jolma i ro mapurus tu Ibana. Molo jolma i mandonoki dohot hatuluson jala marmauliate tu HabalgaonNa, gabe jaloon ni Debata (Allah) manasida lam donok tu Ibana. Dibagasan sembahyang/martangieng i, laos dapot do maningkat hasilhasilna secara khusus. Angka jolma naung mamboto taringot tu pangalaman partondion – mamboto – huhut mangantusi sian pangalaman – ia angka jolma na porsea i, boi mandapot hagogoon na kreative marhitihitehon tangiang/sembahyang.

Molo disungkun angka naposongki tu ho taringot tu Ahu, on ma alusmu: "Sasintongna Ahu doñok. Nunga Huolohon tangiang ni jolma na na mangido ditingki ibana martangieng tuadopanHu. Jadi ingkon ma nasida, ima angka jolma na martangieng i pe, mangalusi surusurungKu gabe porsea tu Ahu, asa nasida dapotan Sipatudu.

(2.187)

وَلَا أَسْأَلُكَ عِبَادًا يَعْتَدِي فِي قَرِيبٍ
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَنِي
فَلَيَسْتَحِي بُوَالِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ^{١٨٧}

البقرة: ١٨٧

Sian tongatonga nasida adong muse na manghatahon: "Oh Tuhannami! lehon ma hami hadengganon diportibion songon i muse hadengganon di ari parpudi, jala ramoti hami sian habernitin api narokko. Nasida i ma na naeng mandapot hasongan bolon songon sahala sian angka usaha nasida. Ai hatop do Debata (Allah) laho magetong.

(2:202, 203)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَنَا فِي الْمُنْيَاءِ
حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قَنَاعَدَابَ
الثَّالِثِ
أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، وَاللَّهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ^{٢٠٣-٢٠٤}

البقرة: ٢٠٣-٢٠٤

Debata (Allah) ndang mamborati sasa-halak alai na sa tarboansa do, di ibana jambar aha na niulana, tu ibana ampe hahansiton sian angka hajahaton na binahenna. Nasida marhata: "Olo Tuhan-nami! unang ma Ho manguhumi hamि molo lupa hamि manang hamि marsala; Olo Tuhannami! unang ma Ho mangam-pehon tu abaranami boban songon na naung dibobanhonHo tu angka jolma najolo i. Olo Tuhannami! unang ma Ho mam bobani hamि tu na so tarusung i; ampuni ma hamि, jala asi ma roham tu hamि alana Ho do Namangalindungi hamि, jadi tolong ma hamि mangadopi houm na so porsea i. (2:287)

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا لَا وُسْعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَخْتَصَبَتْ، رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا إِنْ تُؤْخِذْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا لِضَرٍّ كَمَا حَمَلْنَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَقَةَ لَنَا بِهِ، وَأَغْفِرْ عَنَّا، وَأَغْفِرْ لَنَا، وَأَزْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ

القدرة: ٢١٧

Tu hajadian ni langit dohot tano, dohot partukkaran ni borngin dohot arian sasintongna adong Sipatudu tu angka parhapistarán i. Ima angka jolma na mangingot Debata (Allah), ditingki jongjong dohot hundul dohot ditingki peakpeak diginjang ni rusukna, unduk nasida marpikkir taringot tu hajadian ni saluhut langit dohot tano huhut marhata: "Olo Tuhannami ndang dibahen Ho on gabe jadi magopo, Badia ma Ho, sian parniulaon na magopo, jala ramoti ma sian haberniton ni api. "Oh Tuhannami, sasintongna ise na dipamasuk Ho tu bagasan api, pasti nunga Ho paleahon ibana. Jala ndang adong tu angka jolma na sala sahalak pe pangurupion. "Oh Tuhannami, sasintongna nunga hubege hamि sahalak Panjou manggokkon hamि tu hapor-seaon, huhut mandok, "Porsea ma hamu tu Tuhanmu, "jadi hamि nunga porsea be. Oh Tuhannami, ala ni ma ampuni ha hamि, dosadosanami padao ma sian hamि hajahatonhajahatonnami

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَافِ الْأَيَّلِ وَالنَّهَارِ كَلِيلٌ تَلُوْيِ الْأَنْبَابِ^{٤٨}
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَبْيَانًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّنَا مَا حَلَّتْ هَذَا بِطْلًا، سُبْحَنَكَ فَقَنَاعَدَابَ النَّارِ
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّاهِرِينَ مِنْ آثَارِ^{٤٩}
رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادًى يَأْيُنَادِي لِلْأَنْجَانَ
أَنْ أَمْنُوا يَرِيْكُمْ فَإِمَّا يُبَشِّرُ رَبَّنَا فَأَعْفِرْنَا دُنْوَبَنَا وَكَيْفَعَنَا سِيَاتِنَا وَتَوْقَنَا مَعَ الْأَكْبَارِ^{٥٠}

jala molo dung mate pamasuk ma hami aha na naung Ho padanhon tu hami marhitehite PanondangMi, unang Ho paleahon hami ditingki Ari Hiamat. Sasintongna Ho ndang siuba padan. Jadi Tuhannasida nunga mangolohon tangiangnasida huhut marhata, "Ndang magopo bahenonHu parniulaon ni jolma na dengan ditongatongamu, sian angka baoa manang boruboru. Deba hamu adong do sian na deba nari. Jala angka jolma na naung bungkas dohot na dipabali sian angka jabu nasida, dihansiti ala ni Ahu, dung i maporang nasida gabe mate, ingkon padaoonHu sian diri nasida hajahaton-hajahatonnasida jala ingkon Ahu naeng pamasukhon nasida tu bagasan porlak na sian toruna mardalan sunge hataboon on songon sahala sian Debata (Allah) dilambung ni Debata (Allah) do sahala na dengan. (3:191–196)

رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْنَا عَلَىٰ رُسُلِنَا
تُخْرِجُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْفِي
الْوِينَادَ^٠
فَأَشْجَابَ لَهُمْ بِهُمْ أَرَىٰ كَمَا أَضْيَعُهُمْ
عَامِلٌ مِّنْكُمْ مَنْ دَكَرَهُ أَذْنَشَ بَعْضُكُمْ مَنْ
بَغَضَهُ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَيِّئِينِ^١ وَتَشْتُرُوا ثِيلُونَ
كَمَا كَفَرُوكُمْ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَكَمَا دَخَلْتُمْ
جَنَّتِ تَهْرِيرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرُ شَوَّابًا
مَنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الثُّوابِ^٠

آل عمران: ١٩٦ - ١٩١

**(20) AYAT—AYAT NA JEMPEK SIAN AL QURAN
NA MOMO INGOTON**

Dohot goar ni Debata (Allah) Parasiroha, Naulibasa. Molo sahat parto-longan ni Debata (Allah) dohot hamonangan, Di ida ho angka jolma bongot tu ugamo ni Debata (Allah) mariringiring. (110:1–4)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا جَاءَهُ أَصْرَارًا شَوَّافَتْهُ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَذْهَلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
أَفَوَاجَأْتُمْ
فَسَيِّئَتِ الْعَمَورَتِكُمْ وَاسْتَغْفِرَةُ اللَّهِ كَانَ
شَوَّافًا جَاهِدًا ۝

النصر : ٤١

Dohot goar ni Debata (Allah) Parasiroha, Naulibasa. Hatahon ma, "Hai angka jolma na so porsea"!. "Ndang manomba ahu songon dia hamu manomba; "Jala hamu pe ndang manomba songon dia ahu manomba. "Ahu pe ndang manomba aha na sinombamu; "Dung i hamu pe ndang manomba Ibana, Na Husomba i. "Di hamu ugammomu, di ahu ugamongku. (109:1–7)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُونَ ۝
لَا أَعْبُدُ مَا تَخْبُدُونَ ۝
وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ
وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِي ۝

المنبرون : ٧-١

Dohot goar ni Debata (Allah) Parasiroha, Naulibasa. Tu na masa, Sasintongna jolma i di bagasan rugi, Kecuali angka

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُشْرٍ ۝

jolma na porsea na mangulahon na dengan jala masipodaan na sada dohot na deba asa dipasahat habonaron, dung i masipodaan na sada dohot na deba mar benget.

(103 : 1-4)

إِلَّا الَّذِينَ أَمْتُوا عَمِيلًا الصَّرِحَتْ وَتَوَاصَوْ
بِالْعَقْدِ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ

العمر: ٤ - ١

Dohot goar ni Debata (Allah) Parasiroha, Naulibasa. Hatahon ma, Ibana ma Debata (Allah), Nasada; "Debata (Allah), Na so margantung tu manang aha pe alai saluhut margantung tu Ibana. Ibana ndang pasoranghon jala ndang muse di soranghon. Ndang adong sada pe na tudos tu Ibana. (112:1—5)

يَشْوِئُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّجِينُ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

أَمْلَهُ الصَّمَدُ

كَفَيْلَةٌ وَلَمْ يُؤْلَدْ

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًّا أَحَدٌ

الخلاص: ٥ - ١

Dohot goar ni Debata (Allah) Parasiroha, Naulibasa Hatahon ma, "Maporus Ahu tu adopan ni Tuhan Nampuna sisogot, "Sian hajahaton sian na manggulmit na naung tinoppaNa "Dohot sian angka hajahaton haholomon di tingki haholomon i sorop. "Dohot sian hajahaton nasida mangombusi pudunpudun partalian ni dua punguan laho mambukka pudunpudun i.

(113:1—6)

يَشْوِئُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّجِينُ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّعْلَى

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا قَبَ

وَمِنْ شَرِّ الْقَنْثِيرَةِ فِي الْعُقَدِ

وَمِنْ شَرِّ حَامِدٍ إِذَا حَسَدَ

الفعل: ٦ - ١

Dohot goar ni Debata (Allah) Parasiroha, Naulibasa. Hatahon ma, "Maporus ahu tu Tuhan ni manisia, "Raja manisia 'Sisomabaon ni manisia, "Sian hajahaton husiphusip ni si parhusip na martabuni, "Na manghusiphon tu bagasan roha ni manisia, "Sian tongatonga ni Jin dohot manisia."

(114:1—7)

يَشْوِئُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّجِينُ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

مَلِكِ النَّاسِ

إِلَوَالنَّاسِ

مِنْ شَرِّ أَنَوْشَوَاسِ الْحَنَّاكَارِ

الْخُونِيِّ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

الناس: ٧ - ١